

سلام کے احکام و فضائل

أَحْكَامُ السَّلَامِ فِي الْإِسْلَامِ

www.KitaboSunnat.com



تألیف

فضیلۃ الشیخ عبد الولی حقانی حفظہ اللہ

اُستاذ جامعۃ الدَّعْوۃ الْإِسْلَامِیَّة

مُطَبَّرَات

فضیلۃ الشیخ حافظ عبد السلام بن محمد حفظہ اللہ

مدیر جامعۃ الدَّعْوۃ الْإِسْلَامِیَّة



المکتبۃ الکبریٰ قرآن و سنت کی اشاعت و ترویج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com



سلام کے احکام و فضائل

احکام و احادیث

281
عبد ک

جملہ حقوق برائے اشاعت محفوظ ہیں



المکتبۃ الکریمین
قرآن و سنت کی اشاعت کا عظیم ادارہ

گوجرانوالہ : گلی نمبر ۳۸، وافی بلاک سہیل کالونی گوجرانوالہ فون 055-4271665 لکس 055-4271651

گوجرانوالہ : احمدیہ کتب خانہ جامعہ محمدیہ الاحمدیہ شریک کتب خانہ گوجرانوالہ

لاہور : 6- عظیم پبلکیشنز رائل پارک نزد کشمی چوک لاہور پاکستان فون 042-6364210

E-mail: alkarim1aa@hotmail.com



WWW.FUGGAL.COM

سلام کے احکام و فضائل

الحکم العظام فی الامتکام



تألیف

فضیلۃ الشیخ عبدالولی حقانی رحمۃ اللہ علیہ

مستاد جامعۃ الذہن الاسلامیۃ

نظر ثانی

فضیلۃ الشیخ حافظ عبد السلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ


مدیر جامعۃ الذہن الاسلامیۃ



E-mail: alkarimiaa@hotmail.com

المکتبۃ الکیمیۃ

قرآن و سنت کی اشاعت کا عظیم ادارہ



فہرست مضامین

حصہ اوّل

سلام کے احکام و فضائل

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
9	تقریظ	
13	www.KitaboSunnat.com	مقدمہ
17	سلام لغت میں	1
18	سلام تحیہ کا معنی	2
19	سلام کی ابتداء	3
20	سلام کی فضیلت، اہمیت اور اس کے پھیلانے کا حکم	4
22	سلام اسلام کی نشانی ہے	5
23	سلام آپس میں محبت کا ذریعہ ہے	6
24	شنا سنا وغیرہ سب کو سلام کیا جائے	7
25	جو سلام نہیں کرتا سب سے بڑا بخیل ہے	8
25	سلام مسلمان کا حق ہے	9
26	سلام اور اس کے جواب کی شرعی حیثیت	10
27	سلام کے واجب ہونے کے دلائل	11
28	جواب سلام کے واجب ہونے کے دلائل	12
29	جماعت میں سے ایک کا سلام کہنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے	13
30	سلام کا جواب کوئی نہ دے تو فرشتے جواب دیتے ہیں	14

31	الفاظ سلام و جواب	15
33	جواب سلام کے الفاظ	16
35	مذکورہ نصوص سے ثابت شدہ فوائد و مسائل	17
36	کیا سلام کے جواب میں انہی الفاظ کو لوٹا دینا درست ہے؟	18
37	الفاظ سلام کی تنکیر و تعریف	19
38	مذکورہ بالا تفصیل کا خلاصہ	20
40	سلام اور جواب سلام میں ((وبرکاتہ)) کے بعد ((ومغفرتہ)) کا اضافہ	21
54	سلام میں الفاظ منصوصہ کی پیروی ضروری ہے	22
57	سلام اور جواب سلام میں جہر اور سنانا ضروری ہے	23
59	الفاظ بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا	24
60	گو نکلے کا سلام اور جواب	25
61	سب سے پہلے سلام پھر کلام	26
61	سلام میں پہل کون کرے؟	27
63	سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے	28
64	تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کہیں	29
64	چھوٹا بڑے کو سلام کہے	30
64	جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو سلام میں پہل کون کرے؟	31
65	مجلس میں آنے والا اور مجلس سے جانے والا دونوں سلام کہیں	32
66	مجلس میں سے کسی کو خاص کر کے سلام کہنا مکروہ ہے	33
67	بار بار آنے جانے اور ملاقات ہو جانے کی صورت میں بھی سلام کہنا ضروری ہے	34

69	35	کسی کے ہاں آتے وقت نبی کریم ﷺ کے سلام کا طریقہ
71	36	اپنے گھر میں آنے والا گھر والوں کو سلام کہے
72	37	(استفذان) اجازت طلب کرنے کا بیان
75	38	اجازت طلب کرتے وقت کتنی مرتبہ سلام کہہ سکتا ہے؟
76	39	ٹیلیفون میں سلام میں پہل کون کرے؟
77	40	خطیب کا جمعہ کے دن منبر پر چڑھنے کے بعد حاضرین کو سلام کہنا
79	41	خالی مکان میں داخل ہوتے وقت سلام کے الفاظ
79	42	خطوط میں سلام لکھنا
80	43	سلام بھیجنا اور غائبانہ سلام کا جواب دینا

حصہ دوم

مسلمانوں کے معاشرہ میں سلام کیوں متروک ہے؟

84	44	کیا مسجد میں سلام کہنا ممنوع ہے؟
92	45	مسجد میں سلام کہنا مشروع و مستنون ہے
95	46	مسجد میں داخل ہونے والا پہلے سلام کرے یا تحیۃ المسجد پڑھے؟
96	47	کیا نمازی کو سلام کہنا مکروہ ہے؟
97	48	نمازی کو سلام کہنا مستنون ہے
111	49	تلاوت کرنے والے کو سلام کہنا
112	50	ذکر کرنے والے کو سلام کہنا
120	51	مؤذن کو سلام کہنا

123	52	کھانا کھانے والے کو سلام کہنا
129	53	بچوں کو سلام کہنا اور ان کے سلام کا جواب دینا
133	54	عورتوں کو سلام کہنا
137	55	دوران وعظ وخطبہ سلام کہنا
138	56	کیا خطبہ جمعہ کے دوران سلام کہنا جائز ہے؟
140	57	سائل کے سلام کا جواب دینا
142	58	کیا بار بار آنے جانے اور بار بار ملاقات ہو جانے کی صورت میں سلام کہنا ضروری ہے؟
146	59	وضوء کرنے والے کو سلام کہنا
151	60	قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کہنا
153	61	سوئے ہوئے یا سونے کے قریب شخص کو سلام کہنا
154	62	جماع کرنے والے کو سلام کہنا
156	63	برہنہ (ستر کھلے ہوئے) شخص کو سلام کہنا
156	64	کافر کو سلام کہنا
162	65	کافر کو "وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی" کہنا
165	66	جس مجلس میں مسلمان، کافر سب جمع ہوں تو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
166	67	کافر (اہل کتاب) کے سلام کا جواب
167	68	فاسق اور معصیت میں مبتلا شخص کو سلام کہنا یا اس کے سلام کا جواب دینا
171	69	فقہ حنفی کا عجیب مسئلہ۔ دیہاتی اور شہری میں تو پہلے کون سلام کہے؟
173	70	پرانے و نئے سب ایک ہیں

تقریظ

فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ

امت مسلمہ کی سر بلندی کے لیے باہمی محبت والفت اور اتفاق واتحاد جس قدر ضروری ہے کسی شخص پر مخفی نہیں ہے اور اس وقت امت میں جو باہمی بغض و عداوت اور تفرق و اختلاف ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے نتیجے میں ذلت و غلامی کا جو عذاب ہم پر مسلط ہے، ہر درو مند اور خیر خواہ اس کے اسباب پر غور کرتا ہے اور اس کے علاج کی فکر کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ کاش کسی طرح مسلمان پھر ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۶) بن جائیں ایک دوسرے سے دوستی، رحم دلی اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہو جائیں دیوار کی اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کو قوت اور سہارا دینے والے بن جائیں مگر یہ مقصد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتا جس میں سب سے پہلی چیز ہر قسم کی فرقہ بندی کو چھوڑ کر صرف اور صرف کتاب و سنت پر متفق ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: ۴۶)

”اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تَرَكَتُ فِيكُمْ شَيْعَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا؛ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ))

[المستدرک للحاکم، الصحیحہ ۱۷۲۱]

کتاب وسنت پر متفق ہونے کے بعد محبت و اتفاق کی یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے مثلاً مذاق، غیبت، بہتان، بدگمانی، جاسوسی، اور ہر قسم کی مذہبی، نسلی، قومی یا وطنی دھڑے بندی وغیرہ اور ہر اس کام کا اہتمام کیا جائے جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے ان کاموں میں سب سے پہلا کام جو ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کا حق ہے، ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْلَا أَذْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

”تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بنو اور مومن نہیں بنو گے جب تک ایک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام عام کرو۔“ (رواہ مسلم)

اب آپ اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائیں کیا ہم آپ کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے اس حکم پر عمل تقریباً ترک ہی کر دیا ہے۔ اس کا باعث ایک تو سستی اور لا پرواہی ہے اور ایک کچھ لوگوں کا ایسے دینی و شرعی ضابطے اپنے پاس سے ہٹالینا ہے کہ جن سے یہ فریضہ واجب ہونے کی بجائے حرام یا مکروہ بن گیا ہے مجھے اس وقت سخت حیرت ہوئی جب میں چند بھائیوں کے ساتھ رانیونڈ میں تبلیغی جماعت کا مرکز دیکھنے کے لیے گیا، سینکڑوں لوگ آ جا رہے تھے مگر کوئی کسی کو سلام نہ کہتا تھا، جب ہم سلام کہتے تو حیرت سے ہماری طرف دیکھتے میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات حداثہ سے محسوس کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہم سب کی نجات ہے تو یہ بھائی اس عمل سے کیوں گریز کر رہے ہیں۔ بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ یہ حضرات حنفی

مذہب پر عمل کی وجہ سے ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے۔ اگرچہ ہم نے بھی فقہ حنفی کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی ہیں مگر اس مسئلے کی طرف توجہ نہ ہو سکی کہ اس فقہ میں سلام کہنے اور جواب دینے کے آداب و شرائط کیا ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اتفاق ہی تھا کہ ایک دن ہم نے اپنے بھائی مولانا عبدالولی تولاہ اللہ تعالیٰ سے ظہر کے بعد سلام کی اہمیت پر درس کی درخواست کی کیونکہ ان کا فقہ حنفی کا مطالعہ بہت وسیع ہے اس لیے انہوں نے سلام کی اہمیت کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کی وہ شروط بھی بیان کیں جن سے سلام تقریباً کالعدم ہو جاتا ہے اور ان کا رد بھی کیا۔ میں نے محترم مولانا صاحب سے عرض کیا کہ آپ ایک رسالہ لکھیں جس میں کتاب و سنت سے سلام کی فضیلت و اہمیت بھی ہو، بعض لوگوں نے اس فریضہ کو باطل کرنے کے لیے جو شرطیں اپنی طرف سے بنائی ہیں ان کا بحوالہ تذکرہ اور دلائل کے ساتھ ان کا رد بھی ہو۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امت مسلمہ میں یہ متروکہ فریضہ دوبارہ زندہ فرمادے اور ہم پھر باہمی محبت و الفت کی اس نعمت کو دوبارہ حاصل کر لیں جس سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔

عبدالسلام

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے

صفر ۱۴۲۶ھ

عرض ناشر

تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور تمام نعمتیں، فضل اور احسان اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ آج مسلم معاشرے کو دیکھیں تو ہر نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وراصل قرآن و سنت سے دوری اور خوفِ خدا نہ ہونے کی وجہ سے باہمی محبت، اتفاق و اخوت اور ایثار کا جذبہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اس باہمی محبت، اتفاق و اخوت کے جذبہ کو پروان چڑھانے کے لیے سلام کو عام کیا جائے اور ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے آپس میں بغض و عناد پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت کی فضا چاہیے تو مسلمان آپس میں نبی کریم ﷺ کے حکم ”أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ“ (آپس میں سلام عام کرو) پر عمل پیرا ہوں۔ یاد رکھیے! سلام میں سلامتی ہے اور یہ ایک قسم کا مسلمان بھائی کے لیے تحفہ، دعا اور تذکیر بھی ہے۔ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس سلسلہ میں ہم اپنی خامیوں، کوتاہیوں کو دور کر کے افضل المسلمین میں شامل ہو جائیں۔

کتاب ”هذا سلام کے احکام و فضائل“ فضیلۃ الشیخ عبدالولی حقانی حفظہ اللہ مدرس جامعۃ الدعوة الاسلامیہ نے نہایت خلوص محنت سے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ راقم نے ماشاء اللہ اس کتاب کو مدلل انداز میں تحریر فرمایا ہے، اور صرف مستند احادیث جمع کی ہیں۔ مزید برآں خوش کن بات یہ ہے کہ اس کتاب کی نظر ثانی فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ مدیر جامعۃ الدعوة الاسلامیہ نے فرمائی ہے۔ اللہ کریم انہیں جزائے خیر دے۔ آمین

اس کتاب کے پہلے حصہ میں سلام سے متعلق احکام و فضائل اور دوسرے حصہ میں مسلم معاشرہ میں سلام متروک کیوں ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ الحمد للہ ”المکتبۃ الکریمیۃ“ اس انمول اور علمی خزانہ کو شائع کر رہا ہے۔ اس کتاب کو شائع کرنے کا بنیادی مقصد رضائے الہی اور اسلام کے اس عظیم حکم کے بارے میں لوگوں کو روشناس کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب سے غلق کثیر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کے مؤلف، ناشر اور دیگر معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

دعاؤں کا طالب

(آمین یا رب العالمین)

محمد محمود لون ایڈووکیٹ

مدیر المکتبۃ الکریمیۃ

مقدمہ

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

سلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہے۔

سلام آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا تحیہ ہے۔

سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک ثابت و لازم حق ہے۔

سلام مسلمانوں کی باہمی محبت، اتفاق و اخوت کا باعث و محتاج ہے۔

① مسند احمد، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، خطبۃ الحاجۃ للألبانی رحمہ اللہ۔

سلام اسلام کی دلیل اور سلام میں سلامتی ہے۔

سلام مسلمانوں کی طرف سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تحفہ، دُعا اور تذکیر ہے۔

سلام کہنا انسان کے اسلام کے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔

سلام کا افشاء و عام کرنا ایک عظیم سخاوت ہے۔

سلام مسلمانوں کا امتیازی و ملی شعار ہے۔

سلام مسلمان کا مسلمان سے ملتے وقت اور جدا ہوتے وقت ابتداء کلام و انتہاء کلام ہے۔

سلام مسلمان کا ذکر ہے اور ایک مہتمم بالشان عمل ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سلام کا نہایت اہتمام کرتے تھے۔

اس اہمیت، تاکید، فضیلت اور اتنے بے شمار فوائد کے باوجود آج کے مسلم

معاشرے میں سلام نظر نہیں آتا، سلام متروک ہے، سلام کو مسلمانوں کے معاشرہ سے،

مسلمانوں کی آبادی سے، گھر بار سے نکال دیا گیا ہے، مساجد میں سلام نہیں، مدارس میں

متروک ہے۔ محاکم میں جائیں یا دفاتر میں؛ سلام نہیں ملے گا، دارالافتاء میں جائیں یا

کسی فقیہ اور واعظ کی مجلس میں، سلام کا ناطقہ بند کردہ پاؤں گے، سلام راستے میں نہیں ہے، تو

مطعم میں بھی ممنوع پائیں گے، شاگرد استاد کو سلام نہیں کہتا تو دوسری طرف

لابریری (دارالمطالعہ) میں گویا کہ ”سلام ممنوع ہے“ کا بورڈ آویزاں ہے۔ الغرض کہ

جہاں مسلمانوں کا اجتماع ممکن ہے وہاں سلام متروک ہے یا اس کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے

، آخر یہ کیوں ہے؟، اور امت کا آخر اس کی اول سے اس قدر مختلف کیسے ہو گیا؟؟!! اس

کی کئی وجوہات ہیں اور کئی اسباب ہیں؛ جہل و بے علمی، غرور و تکبر، تقلید مغرب اور ان

سے مرعوبیت، اور ان تمام وجوہات و اسباب میں سے سب سے بڑھ کر ایک بنیادی

سبب و علت بعض مذاہب کی طرف سے سلام پر عائد کردہ خود ساختہ و خانہ ساز پابندیاں

ہیں۔ یعنی عام طور پر مسلمان ایک دوسرے کو اس لیے سلام نہیں کہتے کہ انہیں سلام کے

احکام و اہمیت کا علم ہی نہیں ہوتا یا علم تو ہوتا ہے لیکن سلام کہنے کو اپنے لیے کسر شان سمجھتے

ہیں تو تکبر و غرور کی وجہ سے ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے، یا بعض لوگ مغرب کی تقلید اور ان سے مرغوبیت کی بناء پر الفاظ سلام کہنے کی بجائے ہیلو (Hello) ہائے (Hi) اور گڈ مارنگ (Good morning) وغیرہ کہہ جاتے ہیں۔

اور یا اس لیے سلام نہیں کہتے کہ بعض مذاہب (مثلاً فقہ حنفی، شافعی وغیرہ) میں سلام پر خود ساختہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے پیر و ان مذہب ترک سلام کو ثواب اور حکم شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔

اس رسالہ میں ان موانع کو دیکھتے ہوئے سلام کے احکام و مسائل کو مدلل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، احادیث کی صحت و حسن اور تخریج پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اس سلسلے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین کی تحقیقات سے استفادہ کیا گیا ہے اور تحقیق و اطمینان کے بعد ہی کسی حدیث کو صفحہ قرطاس پر منتقل کیا گیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

ہے۔

کتاب کے حصہ دوم میں تنقیدی انداز (جو ضروری تھا) اختیار کرنے کی وجہ سے تحریر میں کچھ شدت محسوس ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سنت کے لیے غیرت ہے، دل آزاری مقصود نہیں، لہذا قاری ہمیں اس بارے میں معذور سمجھے۔

یہ رسالہ دراصل ایک مختصر درس کا پھیلاؤ ہے، بات یہ تھی کہ جب ۱۴۲۱ھ جری میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما کر تقلید و آراء الرجال کی جکڑ بندیوں اور تاریکیوں سے نکالا تو کچھ عرصہ امتحان و آزمائش میں گزرنے کے بعد محرم ۱۴۲۲ھ جری میں محترم جناب ابو سعد شبیر رحمۃ اللہ علیہ مجھے جامعۃ الدعوة الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے میں لائے یہاں پر پختہ کار عالم کہنہ مشق استاد حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی حاصل ہوئی۔

یہاں جامعۃ الدعوة الاسلامیہ میں تعلیمی سال کے دوران بعد از نماز ظہر مختصر اجتماعی درس کا سلسلہ قائم ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر تدریسی خدمات سرانجام دینے کی

توفیق مرحمت فرمائی، تو راقم کو بھی اس سلسلہ میں درس دینے کا شرف حاصل ہوا، ایسے چند درس میں راقم نے سلام کی اہمیت اور پھر مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کے متروک ہونے کے اسباب و وجوہات پر گفتگو کی، اس سلسلے کو سامعین نے توجہ اور دلچسپی سے سنا اور فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے اسے حیطہ تحریر میں لانے کی فرمائش کی، میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسالے کو مذکورہ شکل میں ترتیب دیا، رسالے کی تسوید بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن تدریسی مصروفیات کی وجہ سے اس کی تہیض کے لیے وقت نہیں ملتا تھا بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تہیض مکمل ہوئی محترم شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے نظر ثانی فرمائی اور رسالہ موجودہ شکل میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، رسالہ کی تحریر کا بنیادی مقصد اسلام کے اس عظیم حکم کے بارے میں لوگوں کو روشناس کرانا اور نبی ﷺ کے حکم اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (آپس میں سلام عام کرو) پر عمل کرنا ہے۔

ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے (آمین)

رسالے کو اس شکل میں آپ تک پہنچانے میں جن حضرات نے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزائے خیر دے، پس اگر کسی کو اس رسالہ سے فائدہ ہوا تو یہی مقصود ہے اور اگر کسی کو رسالہ کے مندرجات میں کسی خامی، غلطی کا پتہ لگے تو راقم کو اس پر ضرور مطلع فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر دے۔

عبدالولی حقانی

۲۸ محرم ۱۴۲۶ھ ہجری

جامعة الدعوة الاسلامیہ مرکز

طیبہ مریدکی

Abdulwali128.yahoo.com

سلام کا لغوی معنی

سلام جو بطور تحیہ کے مسلمانوں میں رائج ہے۔ اس کی لغوی حیثیت کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ”السَّلَامُ“ سَلَّمَ باب تفعیل سے اسم مصدر ہے۔ بمعنی سلامتی کے۔ یعنی تمام آفات سے سلامتی اور شر سے حفاظت۔ اور جنت کا ایک نام ”دار السلام“ اسی وجہ سے ہے کہ وہ آفات سے سلامتی کا گھر ہے۔^①

دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ نام ذکر ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ﴾ [الحشر / ۲۳]

”وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا غالب (ہے)۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہتے:

((السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ ،
السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ))
یعنی ”اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبریل پر سلام ہو،
میکائیل پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔“

جب نبی ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ پھیر کر فرمایا: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ. یعنی السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ”اللہ پر سلام ہو“ مت کہو کیونکہ اللہ خود ”السَّلَام“ ہے۔^②

① لسان العرب ۱۲/۲۹۰. بدائع الفوائد ۲/۱۳۹۔

② صحیح البخاری کتاب الاستئذان : ۱۲۷/۷۔ رقم الحدیث ۶۲۳۰۔

اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

”سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے

زمین میں رکھا ہے، لہذا تم آپس میں سلام کو عام کرو“۔^①

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۱۳/۱۱) میں ابن دقیق العید سے نقل کیا

ہے کہ: السلام بمعنی سلامتی کے بھی آتا ہے اور بمعنی تحیۃ کے بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ سلام بمعنی سلامتی کے پیشک آتا ہے لیکن بحث اس میں ہے کہ مسلمانوں کے سلام و تحیہ کی اصل کیا ہے۔ ”السلام“ بمعنی سلامتی ہے یا کہ ”السلام“ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ہمارے خیال میں رائج بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہی بات ثابت ہے کہ:

((إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))^②

سلام تحیہ کا معنی

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کا معنی اللہ تعالیٰ کے نام ہونے کے لحاظ سے یہ ہوا کہ: اَللّٰهُ رَقِيبٌ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ و نگہبان رہے اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اور مطلب یہ کہ اللہ تم پر سایہ فگن رہے تم اسکی حفاظت میں رہو، اس کے نام کی برکت تم پر نازل ہو۔ جس طرح کہا جاتا ہے: اَللّٰهُ يَصْحَبُكَ ، وَاللّٰهُ مَعَكَ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو،

① السلسلة الصحيحة رقم الحديث ۱۸۴/۱

② صحيح الأدب المفرد رقم الحديث ۷۹۳

اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔^①

اور اگر ”السَّلَامُ“ اسم مصدر بمعنی سَلَامَةٌ (سلامتی) کے ہے تو پھر سلام تحیہ کا معنی ہے۔ سَلَامَةٌ اللہ عَلَیْکُمْ۔ اللہ کی سلامتی تم پر ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ“ دو معانی پر مشتمل ہے ”السَّلَامُ“ اللہ تعالیٰ کے نام ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور بمعنی طلب سلامتی بھی ہے لہذا جو بندہ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہتا ہے تو وہ اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ اسی اللہ سے سلامتی کی طلب بھی کرتا ہے۔^②

سلام کی ابتداء

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا:

((اَذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰی اَوْلٰئِكَ ، نَفِّرْ مِنَ الْمَلَاِئِكَةِ جُلُوسٍ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحْيُوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحْيِيْتُكَ وَتَحْيِيَةُ ذُرِّيَّتِكَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَیْکُمْ ، فَقَالُوْا : السَّلَامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، فَرَاَدُوْهُ : وَرَحْمَةُ اللّٰهِ))

”جا، اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کر اور وہ جو جواب دیں، اُسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا: السلام علیکم تو انہوں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ پس انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔“^③

① احکام القرآن لابن العربی ۱/۴۹۶ بدائع الفوائد لابن قیم ۲/۱۴۲ الآداب الشرعیۃ ۴۰۳/۱۔

② بدائع الفوائد ۲/۱۴۳۔

③ صحیح البخاری : کتاب الاستئذان : باب بدء السلام رقم الحدیث ۶۲۲۷، صحیح مسلم : کتاب الحنۃ، باب یدخل الحنۃ أقوام رقم الحدیث ۷۱۶۲۔

اس سے معلوم ہوا کہ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ مسلمانوں والا یہ سلام جناب آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے اور ہر آسمانی دین میں یہی سلام رائج رہا ہے۔

سلام کرنے کی فضیلت، اہمیت اور اس کے

پھیلانے کا حکم

قرآن و سنت کی بہت سی نصوص سلام کی فضیلت، اہمیت اور اس کے پھیلانے کے حکم پر مشتمل ہیں۔ ہم یہاں چند ایک کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۱. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور/ ۲۷]

”اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گھروالوں کو سلام نہ کر لو۔“

۲. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ [النور/ ۶۱]

”پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھروالوں کو سلام کر لیا کرو دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔“

۳. ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام/ ۵۴]

”اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہیے۔“

یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔^①

① أحسن البیان، ابن کثیر ۱۲۹/۲

۴. ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾.

[الذاریات / ۲۴، ۲۵]

”کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔“

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس میں ایک انتہائی لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ دین اسلام سے ہے جو کہ امام الحنفیہ اور ابوالانبیاء سے ملا ہے اور ملت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جس کی اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی حکایت کی تاکہ ہم اس کی اقتداء و اتباع کریں۔^①

۵. ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾.

[النساء / ۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔“

تَحِيَّةٌ اصل میں تَحِيَّةٌ (تَفْعِلَةٌ) ہے۔ یا کے یا میں ادغام کے بعد تَحِيَّةٌ ہو گیا۔ اس کے معنی ہیں: درازی عمر کی دُعا۔ الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ۔ یہاں سلام کرنے کے معنی میں ہے۔

ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں تَحِيَّةٌ سے مراد سلام ہے۔^②

زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیکم

① بدائع الفوائد ۲/ ۱۵۸

② الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۵/ ۲۹۷، أحكام القرآن لابن العربی ۱/ ۴۹۶

کے جواب میں ورحمة الله کا اضافہ اور السلام علیکم ورحمة الله کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے۔^①

سلام اسلام کی نشانی ہے

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾

[النساء/۹۳]

”اور جو تم سے سلام کہے تم اُسے یہ مت کہو کہ تو ایمان والا نہیں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے مسلمانوں کا لشکر بنو سلیم کے ایک آدمی سے ملا تو اس آدمی نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا، مسلمانوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانے کے لیے مسلمانوں والا سلام کیا ہے تو اسے قتل کر کے اس کی بکریاں ساتھ لے آئے تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔^②

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سلام اسلام کی نشانی ہے اور جو شخص سلام کرے اُسے قتل کرنا جائز نہیں بلکہ اُسے مسلمان تصور کیا جائے۔ اس سے بھی سلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ)).

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے سات باتوں کا حکم فرمایا: بیمار کی مزاج پرسی کا، جنازوں کے پیچھے چلنے یعنی اس میں شریک ہونے کا، چھینک والے کی

① أحسن البیان/۲۴۲ (بحوالہ ابن کثیر ۵۰۳/۱)

② صحیح البخاری کتاب التفسیر مذکورہ آیت کے تحت صحیح مسلم ۴۲۱/۲، جامع

الترمذی ۱۳۲/۲

چھینک کا جواب (يُرْحَمُكَ اللہ کہہ کر) دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، سلام پھیلانے کا اور قسم ڈالنے والے کی قسم پورا کر دینے کا۔ (تا کہ قسم ڈالنے والے کو تکلیف نہ ہو)۔^①

سلام آپس میں محبت کا ذریعہ ہے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا ، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، وَلَا أَذْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))
 ”تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اُسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ (وہ یہ ہے کہ) تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔“^②

اس میں دخول جنت کے لیے ایمان کو اصل بنیاد اور اس بنیاد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے درمیان محبت کو اور باہمی محبت کے لیے سلام کے پھیلانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔
 ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفَشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامًا ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ))
 ”اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ (یعنی رشتہ

① صحیح البخاری : کتاب الاستئذان : باب إفشاء السلام رقم الحديث ۶۲۳۵ ، صحیح

مسلم : کتاب اللباس والزينة رقم الحديث ۵۳۸۸

② صحیح مسلم : کتاب الإیمان رقم الحديث ۱۹۴ - أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - یہ حدیث متواتر ہے۔ اور گیارہ صحابہ کرام سے مروی ہے۔ دیکھئے إرواء الغلیل حدیث

داروں کے حقوق ادا کرو) اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں (یعنی تہجد کی نماز) تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“^① ترمذی أبواب الأطعمة رقم الحديث ۱۸۵۵ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی معنی کی حدیث مروی ہے۔

شنا ساد غیر شناسا سب کو سلام کیا جائے

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ، ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا :

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ))

”اسلام کی کونسی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم (بھوکے کو) کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اُسے پہچانو یا نہ پہچانو۔“^②

اس حدیث میں اسلام کی نہایت بہترین باتوں میں سے دو باتیں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر شناسا اور غیر شناسا کو سلام کرنا ذکر ہے۔ اس سے ان دو اعمال کی اہمیت اور فضیلت نہایت واضح ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیکم، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشْرُ نَبِيٍّ ﷺ نے فرمایا: (اس کے لیے) دس نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة

① سنن الترمذی: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع رقم الحديث ۲۴۸۵ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

② صحیح البخاری: کتاب الإیمان: باب إفشاء السلام من الإسلام رقم الحديث ۲۸

اللہ۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عَشْرُونَ (اس کے لیے) بیس نیکیاں ہیں، پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (اس کے لیے) تیس نیکیاں ہیں۔^①

اس سے یہ واضح ہوا کہ صرف السلام علیکم کے کہنے سے دس نیکیاں ملیں گی اور ورحمة اللہ کے اضافے سے مزید دس اور وبرکاتہ کے اضافے سے مزید دس نیکیاں ملیں گی۔

جو سلام نہیں کرتا سب سے بڑا بخیل ہے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَعَجَزَ النَّاسُ مِنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلَ النَّاسُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ)).

”لوگوں میں سے سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو دعاء میں کمزور ہو اور سب سے زیادہ بخیل وہ جو سلام کے ساتھ بخل کرے۔“^②

اس میں دُعا مانگنے اور سلام پھیلانے کی ترغیب ہے اور یہ کہ دعاء میں کمزوری دکھانے والا سب سے زیادہ کمزور ہے اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام نہیں پھیلاتا۔

سلام مسلمان کا حق ہے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① صحیح: رواہ أبو داؤد: کتاب الأدب: باب کیف السلام رقم الحديث ۵۱۹۵ والترمذی أبواب الاستئذان

باب ما ذکر فی فضل السلام رقم الحديث ۲۸۴۲ وقال حثیث حسن صحیح

② رواہ الطبرانی فی الأوسط رقم الحديث ۵۷۲۱، مجمع الزوائد: کتاب الأدب: باب فیمن

بخل بالسلام ۳۱/۸. صحیح الأدب المفرد للالبانی رحمہ اللہ: باب من بخل بالسلام رقم

الحديث ۷۹۵: للصحيحة رقم الحديث ۶۰۱

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَأُتْبِعْهُ))۔

”مسلمان کے حق مسلمان پر چھ ہیں جب تو اس سے ملے تو سلام کہہ، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا، جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب اُسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اُسے ”يُرْحَمُكَ اللَّهُ“ کہہ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پر سی کر اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔“^①

اسلام باہمی اخوت کا دین ہے ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ مؤمن بھائی ہیں، مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں جن میں سے یہ چھ بہت اہم ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق سلام کا ہے، ایک دوسرے کو سلام کہنا مسلمانوں کا حق ہے جبکہ اس حق کی ادائیگی میں مسلمان کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عام معاشرہ سلام سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نہایت مستعدی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

سلام اور اس کے جواب کی شرعی حیثیت

ابتداءً سلام کہنے کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ یہاں تک کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا: علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ابتداءً بالسلام سنت ہے۔^②

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن عبدالبر رحمہ اللہ سے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔^③

لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابن مفلح نے شیخ تقی الدین سے نقل کیا ہے کہ امام احمد کے مذہب میں اس بارے میں دو روایتیں آئی ہیں اور ایک

① صحیح مسلم : کتاب السلام : رقم الحدیث ۵۶۵۱

② فتح الباری ۴/۱۱

③ الجامع لأحكام القرآن ۵/۲۹۸

میں ابتداء بالسلام کو واجب کہا ہے، جبکہ اہل ظواہر سے بھی وجوب ہی نقل ہے۔^①
 اور جواب سلام کے واجب ہونے پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، جبکہ دلائل کی رو
 سے ابتداء بالسلام کا واجب ہونا بھی ظاہر ہے اور جسے سلام کیا گیا اس پر جواب سلام
 واجب ہو گیا۔

سلام کے واجب ہونے کے دلائل

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ﴾
 [النور / ۶۱]

”پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو دعائے
 خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔“

براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی حدیث گزری ہے جس میں ہے:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ : وَفِيهِ . وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ))^②

”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے سات باتوں کا حکم فرمایا: اور اس میں سلام

پھیلانے کا حکم بھی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ))^③

”مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کہہ۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))^④ ”اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ خَالَتْ بَيْنَهُمَا

② اس کی تخریج گزریجی ہے۔ دیکھئے ص: ۱۹

③ الآداب الشرعية ۱/ ۳۵۱

④ اس کی تخریج گزریجی ہے۔ دیکھئے ص: ۲۰

⑤ اس کی تخریج گزریجی ہے۔ دیکھئے ص: ۲۳

شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيَسَلِمُ عَلَيْهِ أَيْضًا))^①
 ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اُسے سلام کہے، پس اگر ان
 کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے، پھر اُسے ملے تو اُسے
 چاہیئے کہ پھر سلام کرے۔“

ان آیات و احادیث میں سلام کرنے کے متعلق امر کے صیغے ہیں اور امر و جواب
 کے لیے آتا ہے۔

جواب سلام کے واجب ہونے کے دلائل

مندرجہ بالا دلائل سلام کے واجب ہونے پر صراحۃً ہیں۔ جبکہ جواب سلام کے
 واجب ہونے پر اتفاق ہے اور اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾.
 [النساء/ ۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو
 لوٹا دو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : رَكُّ السَّلَامِ))..... الخ.

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا۔“

امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کو سلام کرتا ہے، لیکن وہ
 جواب نہیں دیتے، تو کیا حکم ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: يُسْرِعُ فِي خُطَاةٍ، لَا تَلْحَقُهُ
 اللَّعْنَةُ مَعَ الْقَوْمِ. یہ شخص جلدی یہاں سے نکلے تاکہ اس قوم پر برسنے والی لعنت میں

① صحیح : رواہ أبو داؤد : کتاب الأدب رقم الحدیث ۵۲۰۰، الصحیحۃ رقم الحدیث ۱۸۶

وہ شامل نہ ہو جائے۔^①

ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا:

((الْحُجَّةُ فِي فَرْضِ رَدِّ السَّلَامِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾. [النساء: ٨٦] وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ))^②

جواب سلام کے فرض ہونے پر دلیل یہ آیت کریمہ ہے اور جواب دینا سب کے نزدیک واجب ہے۔

جماعت میں سے ایک کا سلام کہنا یا ایک کا جواب دینا کافی ہے

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُجْزِي عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِي عَنْ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ))^③

”جماعت کی طرف سے جب وہ (کہیں سے) گزریں، ان میں سے ایک آدمی کا سلام کہہ دینا کافی ہے اور جماعت کی طرف سے ایک آدمی کا سلام کا جواب دے تو یہ کافی ہے۔“

فائدہ: اگر جماعت کی طرف سے ایک آدمی سلام کہہ دے تو سب کا

فرض ادا ہو گیا ورنہ سب گناہ گار ہوں گے، جواب کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک آدمی کا سلام کہہ دینا کافی ہے لیکن اگر سب سلام کہیں تو بہتر ہے اسی طرح اگر سب لوگ جواب دیں تو افضل ہے۔

① الآداب الشرعية ٣٥٦/١

② التمهيد لابن عبدالبر ٢٨٩، ٢٨٨/٥

③ رواه أحمد وأحمد والبيهقي أنظر تحفة الأشراف ٤٢٩/٧، سنن أبي داود رقم الحديث ٥٢١٠، صحيح - الصحيحة رقم الحديث ١١٤٨ اس حدیث کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے جبکہ علامہ شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ إرواء الغلیل رقم ٧٧٨.

سلام کا جواب کوئی نہ دے تو فرشتے جواب دیتے ہیں

مذکورہ نصوص و دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا واجب ہے ہاں اگر جماعت ہے تو ان میں سے ایک کا سلام کہنا یا ایک کا جواب دینا کافی ہے۔ لیکن اگر سلام نہ کیا جائے یا سلام کا جواب نہ دیا جائے تو یہ جرم اور گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام و ارشادات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچائے رکھے۔ آمین۔

اور اگر کسی نے سلام کیا اور اُسے جواب نہیں دیا گیا تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہے اور اس کے سلام کا جواب ان لوگوں سے بہتر لوگ دے دیتے ہیں۔ لہذا اُسے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے اور بہر حال سلام کہنا چاہیے خواہ کوئی جواب دے یا نہ دے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ؛ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُمْ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ)).

”یقیناً ”السلام“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے! اے اللہ نے زمین میں رکھا ہے، لہذا سلام کو اپنے درمیان عام کرو، پس جب مسلمان آدمی کا کسی قوم پر گزر ہوتا ہے اور وہ انہیں سلام کرتا ہے، پھر وہ لوگ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو اس شخص کو ان پر ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے ان کو سلام یاد دلایا، پس اگر وہ لوگ اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو اس کا جواب ان لوگوں سے بہتر

لوگ دیتے ہیں۔“^①

عبداللہ بن صامت رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا:

((مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ؟ رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مَلَكَ عَنْ يَمِينِهِ))

”میں عبدالرحمن بن أم الحکم کے پاس سے گزرا میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھتیجے! اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تجھے تیرے سلام کا جواب اس نے دیا جو اس سے بہتر ہے، دائیں طرف کا فرشتہ۔“^②

الفاظ سلام و جواب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾

[الأنعام/ ۵۴]

”اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انکو سلام کہیے۔“

﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأعراف/ ۴۶]

”اور اصحاب اعراف جنتیوں کو آواز دیں گے کہ، سلام علیکم۔“

① سلسلۃ الأحادیث الصحیحة رقم الحدیث ۱۶۰۷، ۱۸۴۔ الترغیب ۲۶۷/۳۔ نقلًا عن البزار رقم ۱۹۹۹ الطبرانی، وأحد إسناده البزار جيد قوى۔ قاله المنذرى۔ امام بخاری نے الأدب المفرد ۱۰۳۹ میں عبداللہ بن مسعود سے سند صحیح موقوفہ روایت کیا ہے جو کہ بحکم مرفوع ہے، قاله الألبانی

② الأدب المفرد رقم ۱۰۳۸ شیخ البانی نے فرمایا: صحیح الإسناد موقوفًا علی أبی ذر۔ صحیح الأدب المفرد رقم ۷۹۲ اور یہ بحکم مرفوع ہے۔

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد / ۲۳]

”کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا۔“

﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مریم / ۴۷].

”اس نے کہا: تم پر سلام ہو میں تو اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دُعا کروں گا۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا اور آپ نے یہ ابتداء میں کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے تو پھر آپ نے یہ دُعا کا سلسلہ موقوف کر کے اس سے بیزار ہو گئے جیسا کہ سورہ توبہ ۱۱۳ میں ہے۔ اسی طرح کافر و مشرک کو سلام کرنا بھی منع ہے۔ لہذا آیت کریمہ کو صرف مسلمان کیلئے سلام کے الفاظ کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا جائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا:

((إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلَيْكَ، نَفِّرْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحْيِيُونَكَ فَإِنَّهَا تَحْيِيَّتُكَ وَنَحْيَةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَأَوْهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ))

”جا، اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کر اور وہ جو جواب دیں، اُسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہو گا پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا: السلام علیکم تو انہوں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ پس انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔“^①

① اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ دیکھئے ص: ۱۶

عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیکم، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشْرُ نَبِيٍّ ﷺ نے فرمایا: (اس کے لیے) دس نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عَشْرُونَ (اس کے لیے) بیس نیکیاں ہیں، پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (اس کیلئے) تیس نیکیاں ہیں۔^①

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ))^②

”جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو کہے: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔“

جواب سلام

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

((بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَ أَغْرَابِيٌّ مِنْ أَجْلَفِ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: 'وَعَلَيْكَ')).

”ہم نبی کریم ﷺ کے پاس مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نہایت اجڑخت ترین دیہاتی نے آکر

① اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ دیکھئے، ص: ۲۲

② رواہ الترمذی ۳/۳۹۴، وابن السنی فی عمل اليوم والليلة ۶۳۳/۱، السلسلة الصحيحة ۱۴۰۳۔

”السلام علیکم“ کہا تو صحابہ نے ”وعلیک“ سے جواب دیا۔^①

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مُسْنِی الصَّلَاة کی طویل حدیث میں مروی ہے۔

((أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))^②

”ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ ﷺ مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، اس شخص نے نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، رسول اللہ ﷺ نے اُسے فرمایا: وعلیک السلام واپس جا اور نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“

ابو جمرہ کہتے ہیں: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَعَلَيْكَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ)) ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب سلام کیا جاتا تو میں نے انہیں ”وعلیک ورحمة اللہ“ سے جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔^③

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ. قَالَ: فَاتَيْتُهُ فَإِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: قُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. مَنْ أَنْتَ؟))^④

”نبی کریم ﷺ تشریف لائے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے

① صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث ۷۸۷

② صحیح البخاری: کتاب الاستئذان رقم الحدیث ۶۲۵۱۔

③ صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث ۷۸۸

④ صحیح مسلم: فضائل الصحابة: باب فضل أبی ذر، رقم الحدیث ۶۳۶۱، صحیح

الأدب المفرد رقم الحدیث ۷۹۰۔

پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، پس میں آپ ﷺ کے پاس آیا اور سب سے پہلے میں نے اسلام والا سلام کیا، میں نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: وعلیک ورحمة اللہ، آپ کون ہیں؟“

معاویہ بن مرثدہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ((يَا بُنَيَّ! إِذَا مَرَّ بِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَلَا تَقُلْ: وَعَلَيْكَ كَمَا أَنَّكَ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ، وَلَكِنْ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ))

”اے بیٹے! جب تیرے پاس سے کوئی شخص گزرتے ہوئے السلام علیکم کہے تو تم جواب میں ”وعلیک“ کہہ کر اسی ایک کو خاص نہ کر: اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ بلکہ جواب میں السلام علیکم کہہ۔“^①

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾.

[النساء/ ۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔“

مذکورہ نصوص سے ثابت شدہ فوائد و مسائل

- ۱۔ اگر مُسَلَّم علیہ (وہ شخص جسے سلام کیا جا رہا ہے) ایک ہے تو السلام علیک واحد کا لفظ بھی مشروع ہے، جبکہ جمع کا لفظ: السلام علیکم افضل ہے اور اگر مُسَلَّم علیہ کئی ہیں تو پھر جمع کا لفظ: السلام علیکم ہی متعین ہے۔

① صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث ۷۹۱۔

- ۲۔ اسی طرح اگر سلام کہنے والا ایک ہے تو جواب و علیک السلام سے دینا بھی درست ہے، جبکہ جمع کا لفظ و علیکم السلام کہنا بہر حال افضل ہے۔
- ۳۔ سلام کی ادائیگی کیلئے کم از کم الفاظ ایک شخص کے لیے السلام علیک اور ایک سے زائد کیلئے السلام علیکم ہیں۔ یعنی ان الفاظ کے کہنے سے اسلامی تحیہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس سے کم الفاظ کے ساتھ اسلامی تحیہ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
- ۴۔ جواب سلام کے کم از کم الفاظ ایک شخص کیلئے و علیک ہے اور زیادہ کیلئے و علیکم ہے۔
- ۵۔ اس پر اتفاق ہے کہ سلام اور جواب سلام دونوں میں السلام علیکم اور و علیکم السلام کے ساتھ ورحمة الله وبرکاته کا اضافہ افضل اور باعث زیادتی اجر ہے۔

کیا سلام کا جواب انہی الفاظ کو لوٹا کر دینا درست ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾.

[النساء/۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور انہوں نے ورحمة الله کے اضافے سے السلام علیکم ورحمة الله کہا۔^①

عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: كُنْتُ رَدِّيفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ:

① اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ دیکھئے ص: ۱۶

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَيَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَضَلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِزِيَادَةِ كَثِيرَةٍ. میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سواری پر بیچھے بیٹھا تھا، آپ کسی قوم پر سے گزرتے تو السلام علیکم کہتے، وہ لوگ جواب میں کہتے السلام علیکم، ورحمة اللہ، اور آپ کہتے: السلام علیکم ورحمة اللہ، تو لوگ جواب میں کہتے: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آج لوگ ہم پر (ثواب) میں کافی غالب آئے۔^①

مذکورہ دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ سلام کا جواب سلام کے الفاظ کے ساتھ دینا درست ہے اور جواب میں ورحمة اللہ کا اور اس کے بعد وبرکاتہ کا اضافہ کر لینا چاہیے۔
الفاظ سلام کی تکمیل و تعریف (لفظ سلام ال کے ساتھ اور ال کے بغیر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا جَاءَ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾.

[الأنعام/ ۵۴]

”اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہیے۔“

معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ، مجھے میرے والد قرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((يَا بُنَيَّ! إِنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُو خَيْرَهُ فَعَجِلْتُ بِكَ حَاجَةً، فَقُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنَّكَ تُشْرِ كُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ))

”اے بیٹے! اگر تو ایسی مجلس میں ہے جس کی خیر کی تو امید رکھتا ہے اور تجھے جلدی جانے کی ضرورت پیش آئے تو تو کہہ دے: سلام علیکم. بیشک

تو ان کا شریک ہوگا اس خیر میں جو ان کو اس مجلس میں ملنی ہے۔“ ①

قرآن کریم کی متعدد آیات میں سلام کے دونوں صیغے السَّلَام الف لام کے ساتھ اور سَلَام بغیر الف لام کے آئے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں اکثر و بیشتر مواضع میں لفظ سلام معرّف ہی آیا ہے اور منکّر بہت کم۔ اسی کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ لفظ سلام کی تکثیر و تعریف دونوں درست ہیں، لیکن احادیث میں ال کے ساتھ استعمال اور حکم کو دیکھتے ہوئے سلام کو معرّف یعنی السَّلَام بولنا افضل ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل کا خلاصہ

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((وَأَقْلُ السَّلَامِ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ كَانَ الْمُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، فَأَقْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، لِيَتَنَاوَلَهُ وَمَلَكيه، وَأَكْمَلُ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَيْضًا: وَبَرَكَاتُهُ، وَلَوْ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَجْزَأُهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُتَبَدِّلُ: عَلَيْكُمْ السَّلَامُ، فَإِنْ قَالَ: اسْتَحَقَّ الْجَوَابَ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الْمَوْتَى، وَأَمَّا صِفَةُ الرَّدِّ فَالْأَفْضَلُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَقُولَ: "وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" فَيَأْتِي بِالْوَاوِ، فَلَوْ حَذَفَهَا جَازَ، وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَوْ عَلَى: عَلَيْكُمْ السَّلَامُ، أَجْزَأُهُ.....

① صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث ۷۷۱، صحیح موقوف قالہ الألبانی۔ وقال إسناده صحیح رجاله كلهم ثقات۔ اور اگرچہ یہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے اس لیے کہ رائے سے یہ بات نہیں کہی جاسکتی۔ السلسلة الصحيحة رقم الحدیث ۱۸۳

وَإِذَا قَالَ الْمُتَبَدِّئُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَوْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ الْمُجِيبُ مِثْلَهُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَوْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كَانَ جَوَابًا وَأَجْزَاءً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان/۶۳] قَالَ سَلَامٌ وَلَكِنْ بِالْأَلِفِ أَفْضَلُ^①

”کم از کم سلام یہ ہے کہ کہا جائے: السلام علیکم۔ اگر مسلم علیہ ایک ہو تو کم از کم سلام ”السلا علیک“ ہے لیکن افضل ”السلام علیکم“ کہنا ہی ہے۔ تاکہ مسلم علیہ اور اس کے دو فرشتوں کو بھی شامل ہو جائے۔ اس سے زیادہ کامل یہ ہے کہ ورحمة اللہ کا اضافہ کرے اور اسی طرح ”وہر کاتہ“ کا۔ اور اگر سلام علیکم کہا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور ابتداء ”علیکم السلام“ کہنا مکروہ ہے، لیکن اگر کہے تو کہنے والا بنا بر قول صحیح مشہور مستحق جواب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستحق نہیں ہے۔ اور تحقیق صحیح یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”علیک السلام“ نہ کہو یہ مردوں کا سلام ہے۔ جواب سلام کا افضل واکمل طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے: وعلیکم السلام ورحمة اللہ وہر کاتہ۔ جواب میں ”واو“ لائے اور اگر اسے حذف کرے تو جائز ہے اور افضل طریقہ کا تارک ہوگا۔ اور وعلیکم السلام یا علیکم السلام پر اکتفاء کرے تو کافی ہے۔ اگر سلام کہنے والے نے سلام علیکم یا السلام علیکم کہا اور جواب دینے والے نے اسی کی مثل سلام علیکم یا السلام علیکم کہا تو یہ جواب ہے اور کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان/۶۳] اللہ نے ”سلام“ کہا لیکن الف لام کے ساتھ افضل ہے۔“

سلام اور جواب سلام میں ”وبر کاتہ“ کے بعد ”ومغفرته“ وغیرہ

کا اضافہ خلاف سنت اور ناجائز ہے

①..... عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ. فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَذَهَبَتْ تَزِيدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِلَى هَذَا انْتَهَى السَّلَامُ، فَقَالَ: ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ ”رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”یہ جبریل علیہ السلام ہے تجھے سلام کہتا ہے۔“ میں نے کہا: وعليہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ (اس پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں) عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر مزید اضافہ کرنے لگی: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سلام کی حد (انتہاء) یہاں تک ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے پڑھا: ﴿اللہ کی رحمت اور برکات تم پر ہیں اے اہل بیت﴾۔“ ②

اس کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ ③ اور بخاری کے رجال ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے اپنے المعجم الأوسط ۱/۴۳۷ (رقم الحدیث ۷۸۶) میں روایت کیا ہے۔ علامہ ہشامی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کتاب الأدب باب حد السلام والرد (۲۴/۸) میں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: قُلْتُ هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ. [رواہ الطبرانی فی الأوسط ورجالہ رجال الصحیح] میں کہتا ہوں یہ صحیح میں مختصر ہے اور اسے طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الأوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور محقق مجمع البحرین نے اس کے بارے میں کہا کہ: إسناده صحيح رقم الحديث ۷۸۶۔

① رواہ البخاری ومسلم مختصراً۔ صحيح البخاری: بدء الخلق رقم الحديث ۳۰۴۵، صحيح مسلم، فضائل الصحابة باب فضل عائشة رقم الحديث ۲۴۴۷۔ ② التقريب

اس کی سند صحیح ہے، لیکن راوی ابو العلاء المسیب بن رافع الأسدی کا سماع عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں لہذا اس میں انقطاع ہے۔ لیکن عمر، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کی روایات سے، جن کا ذکر آ رہا ہے اس کی تائید ہوتی ہے، لہذا مذکورہ مسئلہ بہر حال ثابت ہے۔

②..... عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَشْرُ)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ. فَقَالَ: ((عِشْرُونَ)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ. فَقَالَ: ((ثَلَاثُونَ))

”ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیکم، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”(اس کیلئے) دس نیکیاں ہیں،“ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس کے لیے) بیس نیکیاں ہیں،“ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس کے لیے) تیس نیکیاں ہیں۔“^①

③..... اسی طرح کی حدیث الأدب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے اور وہ بھی صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الأدب المفرد میں اسے صحیح کہا ہے۔^②

① صحیح: سنن أبی داؤد، کتاب الأدب باب کیف السلام، رقم الحدیث ۵۱۹۵

② صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث ۹۸۶/۷۵۷

④..... امام مالک رحمہ اللہ نے موطاء میں جید سند کے ساتھ محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں:

((كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَهُوَ يَوْمَعِدٍ قَدْ ذَهَبَ بَصْرُهُ - مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ، فَعَرَفُوهُ إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ))

”میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس یمن سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ پھر اس کے ساتھ اس نے کچھ اور اضافہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ جو ان دنوں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ کہا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ وہ یمنی باشندہ ہے جو آپ کے پاس آتا رہتا ہے چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی پہچان کرادی محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”سلام کی انتہاء برکت تک ہے۔“^①

اسی روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الإیمان ۶/۴۵۵ میں بھی روایت کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

((قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِنْدَهُ ابْنُهُ فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ، وَعَدَّدَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا السَّلَامُ؟ وَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهَتَاهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَلِيُّ: يَا أَبَتَاهُ: إِنَّهُ سَائِلٌ مِنَ السُّوَالِ.

① موطا الإمام مالك ۲/۳۵۷ كتاب السلام: باب العمل في السلام۔

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّثَ السَّلَامَ حَدًّا، وَيُنْهَى عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ ثُمَّ انْتَهَى))

”محمد بن عمرو بن عطاء کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا اور آپ رضی اللہ عنہما کے پاس آپ کا بیٹا بھی تھا، تو ایک سائل آیا اور آپ کو سلام کیا اور کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانہ اور اس کو اس سے شمار کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ کیسا سلام ہے؟ اور غصے ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ کے بیٹے علی نے آپ سے کہا: ابا جان! یہ مسئلہ پوچھنے والا ہے آپ نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے سلام کی ایک حد مقرر کر دی ہے اور اس سے زائد سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات تم پر ہیں اے اہل بیت۔ بیشک اللہ تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے﴾ [سورۃ ہود/ ۳۷] پھر آپ نے بس کیا۔“^①

⑤..... اسی طرح کی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے۔ زہرہ بن معبد کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انْتَهَى السَّلَامُ إِلَى وَبَرَكَاتِهِ. سلام کی انتہاء وبرکاتہ پر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کے رجال ثقہ ہیں۔^②

⑥..... بیہقی نے شعب الإیمان میں روایت ذکر کی ہے کہ: ((أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَانْتَهَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: حَسْبُكَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى وَبَرَكَاتِهِ إِلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَدْ))

① شعب الإیمان للبيهقي ٤٥٦/٦

② فتح الباری ٦/١١ رقم الحديث ٨٨٧٨

”ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سلام کیا اور کہا: السلام علیک

ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا: تیرے

لیے کافی ہے کہ جب تو وبرکاتہ تک پہنچے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔“^①

ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مراد سورۃ ہود کی آیت [۷۴] ﴿رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَکَاتُهُ

عَلَيْکُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اسی طرح کی حدیث مصنف عبدالرزاق ۱۰/

۳۹۰ میں اور دوسری حدیث موطا ۲/۳۵۹ میں بھی آئی ہے۔

مذکورہ دلائل سے یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ سلام اور

جواب سلام کی آخری حد اور انتہاء ”وبرکاتہ“ ہے اور اس پر اضافہ کرنا خلاف سنت

ہے اور مشروع نہیں ہے۔

مذکورہ دلائل کے علاوہ اس مسئلہ کی دیگر مؤیدات اور شواہد بھی ہیں۔ تشہد میں سلام کے

الفاظ بھی ”وبرکاتہ“ پر ختم ہوتے ہیں اور صحابہ کے ہاں یہی معروف تھا۔

ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ، أَمَّا

السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ))..... الخ

”نبی ﷺ سے کہا گیا کہ ہمیں آپ پر درود و سلام کہنے کا حکم دیا گیا ہے، سلام تو ہمیں

معلوم ہو چکا ہے۔ آپ پر درود کس طرح پڑھیں الخ۔“^②

اور وہ معلوم و معروف سلام ”وبرکاتہ“ پر ہی ختم ہوتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کے تشہدات میں

اس سلام کا اختتام ”وبرکاتہ“ پر ہے۔^③

① شعب الإيمان ۶/۴۵۶، رقم الحدیث ۸۸۸۰

② صحيح النسائي ۱/۲۷۵ رقم الحدیث ۱۲۱۹۔

③ صحيح مسلم مع شرح النووي ۲/۱۵۵۹ رقم الحدیث ۸۷۲

اس کے علاوہ نماز سے نکلنے کے سلام کے عام الفاظ جو احادیث صحیحہ کثیرہ سے ثابت ہیں۔ وہ ورحمۃ اللہ تک ہیں جبکہ بعض صحیح احادیث میں وبرکاتہ بھی ثابت ہے یعنی سلام نماز کی انتہاء بھی وبرکاتہ تک ہی ثابت ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔

علقہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ:

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ))

”میں نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ سے سلام پھیرتے تھے۔“^①

جبکہ ابن خزیمہ میں دونوں طرف انہی الفاظ کے ساتھ سلام کہنا ثابت ہے۔^②

امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الإیمان میں زہرہ بن معبد کی روایت ذکر کی ہے:

((عَنْ زُهْرَةَ بِنِ مَعْبِدٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . فَقَالَ عُرْوَةُ : مَا تَرَكَ لَنَا فَضْلًا ، إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى بَرَكَاتِهِ))

”عروہ بن الزبیر کو ایک آدمی نے سلام کیا اور کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو عروہ نے کہا اس نے ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں چھوڑی۔ بے شک سلام کی انتہاء ”برکاتہ“ تک ہے۔“^③

جملہ بالادلائل سے سلام اور جواب سلام میں ”وبرکاتہ“ کے بعد زیادت

کا ممنوع ہونا ثابت ہوا اور یہی نبی ﷺ کا طریقہ اور سیرت ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا: وَكَانَ هَذِيهِ ﷺ انْتِهَاءُ السَّلَامِ إِلَى وَبَرَكَاتِهِ۔^④

① أبو داؤد ۱/۱۵۰، ابن خزیمہ ۳۵۹/۱

② صحیح ابن خزیمہ ۲۶۰، ۲۵۹/۱

③ شعب الإیمان ۶/۵۱۰، رقم الحدیث ۹۰۹۶

④ زاد المعاد ۲/۴۱۷

اور جن مرفوع احادیث میں وبر کاتہ پر زیادت وارد ہے تو وہ احادیث ثابت نہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ وبر کاتہ پر زیادت چند احادیث میں آئی ہے۔

①..... پہلی حدیث سہل بن معاذ بن انسؓ کی مرفوع حدیث ہے جسے ابو داؤد نے عمران بن حصینؓ کی حدیث کے بعد ذکر کیا ہے۔

((حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَطْنُ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمَعْنَاهُ ، زَادَ : ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَقَالَ : أَرْبَعُونَ قَالَ : هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ))

”ہمیں اسحاق بن سويد الرملی نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نے نافع بن یزید کو سنا، وہ کہتے ہیں مجھے ابو مرحوم نے خبر دی سہل بن معاذ بن انس سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم ﷺ سے (عمران بن حصینؓ کی حدیث کے) معنی کے ساتھ اور یہ اضافہ کیا: پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ومغفرته، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس کیلئے) چالیس نیکیاں ہیں“ اور فرمایا: ”فضائل اس طرح حاصل ہوتے ہیں۔“ ①

یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اسکی سند میں ابو مرحوم راوی ہے جس کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے یحییٰ بن معین نے اسکو ضعیف کہا ہے اور ابو حاتم کہتے ہیں: یُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. اس کی حدیث لکھی جائیگی اور اس کے ساتھ دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ ②

① سنن أبی داؤد، کتاب الأدب: باب کیف السلام۔ رقم الحدیث ۵۱۹۶۔

② میزان الاعتدال للذہبی ۵۰۳۷۔

دکتر بشار عواد معروف نے کہا: ضَعِيفٌ يُعْتَبَرُ بِهِ (تحریر التقریب ۲/۳۵۹)
 دوسرا راوی سہل بن معاذ ہے۔ اس کو بھی یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے اگرچہ
 ابن حبان نے اُسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔^① دکتر بشار نے فرمایا: ضَعِيفٌ (تحریر
 التقریب ۲/۸۹)

شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ ضَعِيفٌ الْإِسْنَادِ ہے۔^②
 علامہ ابن مفلح نے کہا: ضعیف حدیث ہے اور مشہور امر کے خلاف ہے۔^③ حافظ ابن
 حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں عبدالرحیم بن میمون کو صدوق اور سہل بن معاذ کو لا باس
 بہ کہنے کے باوجود اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔^④ حافظ
 ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا:

((وَلَا يَتَّبِعُ هَذَا الْحَدِيثُ؛ فَإِنَّ لَهُ ثَلَاثَ عِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ
 مِنْ رَوَايَةِ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.
 الثَّانِيَةُ: أَنَّ فِيهِ أَيْضًا سَهْلَ بْنَ مُعَاذٍ وَهُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ.
 الثَّالِثَةُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمٍ أَخَذَ رَوَاتِهِ لَمْ يَجْزِمْ بِالرَّوَايَةِ
 بَلْ قَالَ: أَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ))

”یہ حدیث ثابت نہیں اس لیے کہ اس میں تین علل ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ابو مرحوم
 عبدالرحیم بن میمون کی روایت سے ہے اور اس کے ساتھ دلیل نہیں پکڑی جاتی۔
 دوسری علت یہ ہے کہ اس میں سہل بن معاذ ہے اور وہ بھی اسی طرح ہے۔ تیسری
 علت یہ ہے کہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سعید بن ابی مریم نے روایت میں
 جزم نہیں کیا ہے بلکہ کہا: میرا گمان ہے کہ میں نے نافع بن یزید سے سنا۔“^⑤
 بعض حضرات نے اس آخری علت کا یہ جواب دیا ہے کہ ”امام طبرانی نے المعجم

① میزان الاعتدال رقم ۳۵۹۲

② الآداب الشرعية ۱/۳۸۲۔

③ ضعیف أبی داؤد ۱/۵۱۲، رقم الحديث۔ ۱۱۱۲

④ زاد المعاد ۲/۴۱۷، ۴۱۸۔

⑤ فتح الباری ۱۱/۸۔

الکبیر ۱۸۲/۲۰ میں سعید بن ابی مریم سے اسے شک کے بغیر ہی ذکر کیا ہے۔
لیکن المعجم الکبیر کی طرف مراجعت کرنے سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ
کا اعتراض برقرار ہے کیونکہ المعجم الکبیر میں سعید بن ابی مریم نے نافع بن یزید
سے جس حدیث کو شک و تردد کے بغیر روایت کیا ہے اس میں ”و مغفرته“ کے الفاظ
نہیں ہیں لہذا وہ مفید مطلب نہیں۔ حدیث بمع سند اس طرح ہے:

((حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَفِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
مَرِيَمَ أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ
أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ
فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: عَشْرُ
حَسَنَاتٍ ” ثُمَّ أَتَى آخِرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .
فَقَالَ عَشْرُونَ ” ثُمَّ أَتَى آخِرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ: ”أَرْبَعُونَ“ وَقَالَ: هَكَذَا يَكُونُ الْفَضْلُ.))
”ایک آدمی ایک مجلس میں۔ جس میں نبی کریم ﷺ بھی تشریف فرما
تھے۔ آیا اور کہا: السلام علیکم تو آپ ﷺ نے اس کے سلام کا
جواب دیا اور فرمایا: ”(اس کیلئے) دس نیکیاں ہیں۔“ پھر ایک اور آدمی آیا
اور کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں
نیکیاں ہیں“ پھر ایک اور آدمی آیا اور کہا: السلام علیکم ورحمة اللہ
وہرکاتہ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”چالیس نیکیاں“ اور فرمایا: ”اس
طرح فضیلت حاصل ہوتی ہے۔“^①

اس حدیث میں و مغفرته کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دوسری صحیح احادیث کی طرح
وہرکاتہ تک ہی سلام کے الفاظ ذکر ہیں۔ لہذا اس سے مذکورہ اعتراض کو دفع نہیں کیا

① المعجم الکبیر للطبرانی ۱۸۲/۲ رقم الحدیث ۳۹۰

جاسکتا بلکہ اس سے مذکورہ اعتراض مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس روایت میں تردد و شک نہیں بلکہ جزم ہے اس میں سلام کے الفاظ و ہر کاتہ تک ہیں اور جسمیں شک و عدم جزم ہے اس میں و مغفرتہ کا اضافہ ہے جو کہ درست نہیں۔ پس اگر طبرانی کی روایت (جو کہ درحقیقت وہ بھی ضعیف ہے) کے راوی بقول بعض کے حسن درجے کے مان بھی لیے جائیں تو پھر طبرانی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی اس لیے کہ اس کی روایت میں شک و تردد نہیں اور دوسری صحیح احادیث کے موافق ہے جبکہ ابو داؤد کی روایت میں شک و تردد ہے اور صحیح احادیث کے مخالف ہے اور طبرانی کی روایت میں دوسری صحیح روایات کی طرح ثَلَاثُونَ کی بجائے اَرْبَعُونَ ہے تو یہ روایت اولاً تو ضعیف ہے۔ اور اگر بالفرض حسن ہے تو پھر یہ زیادتی شاذ ہے۔ اور یا یہ کہ جو تطبیق یا ترجیح ایمان کے شعبوں کے متعلق بضع و سبعون اور بضع و ستون اور اسی طرح باجماعت نماز کے بارے میں خمس و عشرون اور سبع و عشرون کے اندر دی جاتی ہے وہ یہاں بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ابو داؤد کی مذکورہ روایت ضعیف ہے اور و مغفرتہ کا اضافہ درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس حدیث کو زاد المعاد کے محقق شیخ شعیب الأرنؤوط اور عبد القادر الأرنؤوط نے بھی ضعیف کہا ہے۔^①

②..... ایک اور حدیث جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ انس رضی اللہ عنہ کی ہے :

((كَانَ رَجُلٌ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ يَرْعَى ذَوَابَّ أَصْحَابِهِ - فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَمَغْفِرَتُهُ ، وَرِضْوَانُهُ (الحديث) ③

”ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا کرتا تھا۔ جو اپنے مالکوں کے لیے چوپائے چراتا تھا۔ وہ کہتا: السلام علیک یا رسول اللہ! تو نبی ﷺ

جواب میں کہتے: وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

ومغفرته ورضوانہ.....“

یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں بقیہ بن الولید ہے جس کے بارے میں حافظ نے تقریب میں کہا ہے: صَدُوقٌ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ عَنِ الضَّعْفَاءِ۔ صدوق ہے ضعفاء سے تدلیس زیادہ کرتا ہے۔ دوسرا راوی یوسف بن ابی کثیر ہے۔ وہ مجہول ہے جیسا کہ تقریب میں ہے اور اس کا شیخ نوح بن ذکوان وہ بھی ضعیف ہے۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا: ”منکر الحدیث جداً“ ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا: هُوَ أَضْعَفُ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ۔ یہ پہلی حدیث سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔^① امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار میں فرمایا: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔^② حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: إِسْنَادُهُ وَاهٍ۔ واهی سند ہے۔^③

لہذا اس سے مغفرته یا رضوانہ کا اضافہ سلام میں ثابت نہیں ہو سکتا۔

③..... ایک اور حدیث جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہے اور بعض حضرات نے اپنے موقف کے اثبات میں پیش کردہ حدیث کیلئے بطور قوی شاهد کے ذکر کیا ہے وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے التاريخ الكبير (۳۳۰/۱) میں روایت کیا ہے:

((قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْنَا قُلْنَا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ))

”زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کہتے تو ہم جواب میں

① زاد المعاد ۲/۱۸۸

② فتح الباری ۱۱/۸

③ الاذکار النوویۃ (۲۰۹)

کہتے: وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ ومغفرته۔“

یہ انتہائی ضعیف سند ہے اور اس کی علت امام بخاری کے شیخ ہیں جو کہ ابن حمید ہیں ابو زرہ کہتے ہیں: تَرَكَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. محمد بن اسماعیل نے اُسے چھوڑ دیا ہے۔ نسائی نے کہا: کذاب ہے اور ایک دفعہ کہا: ثقہ نہیں۔ ابن خراش نے کہا: اللہ کی قسم! یہ جھوٹ بولتا تھا۔^① حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: حَافِظٌ ضَعِيفٌ. ابن معین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا۔^②

اور اسی حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ سند میں محمد راوی وہ ابن حمید ہے۔^③ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیہقی کی سند کو ضعیف کہا ہے۔

فائدہ: شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح کے بارے میں سلسلہ صحیحہ جلد نمبر: ۳ کے مقدمہ میں ایک طویل کلام کیا ہے اس بناء پر کہ سند میں ”محمد“ راوی ابن سعید الانصاری الاصبہانی ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں اس کیلئے کوئی یقینی بنیاد نہیں بلکہ انہوں نے بعض باتوں کو قرائن خیال کر کے ترجیح دی ہے۔ لیکن ثابت یہی ہے کہ محمد وہ ابن حمید ہی ہے جیسا کہ بیہقی نے تصریح کی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کی حدیث کا مخرج ایک ہی ہے۔ دونوں نے محمد سے روایت کیا اور بخاری رحمہ اللہ نے مہمل چھوڑا ہے۔ اور بیہقی رحمہ اللہ نے کہا:

((مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ

عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ))

یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی سند ایک جیسی ہے حتیٰ کہ صیغہ التحمل بھی مختلف نہیں ہوئے ہیں۔ جبکہ تہذیب الکمال اور التہذیب کے اندر

② التقریب

① التہذیب ۱۲۷/۹

③ شعب الایمان ۶/۴۵ رقم الحدیث ۸۸۸۱

ابراہیم بن الحنظل کے ترجمہ میں لکھا ہے:

ابن عدی نے کہا: مَا أَقْلَ مَنْ يَرْوَى عَنْهُ غَيْرُ ابْنِ حُمَيْدٍ . ابن حمید کے سوا بہت ہی کم لوگ اس سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی محمد بن حمید ہی اس سے زیادہ روایت کرتا ہے۔ یحییٰ بن معین نے ابراہیم بن الحنظل کے بارے میں کہا: لَيْسَ بِذَلِكَ (یہ قوی نہیں ہے)۔ امام بخاری نے کہا: فِيهِ نَظَرٌ (اس میں نظر ہے)۔ ابو حاتم نے کہا: صَالِحُ الْحَدِيثِ ہے۔ ابوداؤد رحمہ اللہ نے کہا: يَتَّقِي حَدِيثَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْهُ (اس کی ان احادیث سے بچا جائے جو اس نے ابن حمید سے ہو)۔ ^① حافظ رحمہ اللہ نے اسے صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ کہا ہے۔ ^②

درجہ بالا تفصیل سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ابراہیم بن الحنظل اسے اکثر محمد بن حمید ہی روایت کرتا ہے محمد بن سعید الأصہبانی یا دوسرے رواۃ بہت کم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے راوی کو مھمل چھوڑا ہے یعنی باپ یا نسبت کا ذکر نہیں کیا جبکہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسی حدیث میں اور اسی سند میں باپ کا ذکر کیا ہے بلکہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر کے اندر اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور یہی سند ہے اور زید بن ارقم راوی ہیں۔ اس میں بھی محمد بن حمید الرازی کی تصریح ہے۔ سند اس طرح ہے:

((حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُنْذَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)) ^③

وہی سند ہے اور محمد بن حمید الرازی کی تصریح ہے اس کے علاوہ اس میں من

① تہذیب الکمال ۱/۴۲۵ رقم ۲۳۷، التہذیب ۱/۱۶۲ رقم ۲۸۸

② التقریب ۱۱۵/ رقم ۲۴۷

③ المعجم الکبیر للطبرانی ۵/۱۸۰ رقم الحدیث ۵۰۱۵

الصلاة کا اضافہ ہے جبکہ ومغفرته کے الفاظ نہیں بلکہ سلام کی انتہاء وبرکاتہ پر ہے۔ اس سے مذکورہ روایت کے اندر اضطراب واختلاف کا بھی پتہ چلتا ہے۔

لہذا جواب امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں ”محمد“ راوی کے بارے میں موجود تھا وہ ان دلائل سے رفع ہو گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ۔ اور ثابت ہو گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں ”محمد“ ابن حمید ہی ہے جو کہ ضعیف ہے بلکہ اسے کذاب اور جھوٹا کہا گیا ہے تو ایسے راوی کی حدیث کس طرح ”قوی شاہد“ بن سکتی ہے؟! یہ تو سرے سے شاہد ہی نہیں بن سکتی۔

فائدہ: شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ابتداء سلام میں ومغفرته کا اضافہ جائز نہیں تاہم جواب سلام میں اس اضافے کے قائل ہیں۔^① یعنی وہ ابتداء سلام اور جواب سلام میں فرق کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تب بھی ابتداء سلام میں ومغفرته کے اضافے کیلئے شاہد نہیں بن سکتی تھی۔

حاصل کلام یہ کہ سلام وجواب سلام میں ومغفرته وغیرہ کے اضافے کے جواز کے بارے میں یہ چند دلائل ذکر کئے جاتے ہیں جنکا حال ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک روایت بھی قابل حجت اور صحیح نہیں جبکہ دوسری طرف سلام اور جواب سلام کا ”وبرکاتہ“ پر انتہاء اور اس پر اضافے کے عدم جواز کے بارے میں صحیح روایات سامنے آگئیں لہذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سلام کی ابتداء اور جواب دونوں صورتوں میں آخری حد وبرکاتہ ہے اور اس پر اضافہ نہ سنت سے ثابت اور نہ ہی مشروع وجائز۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے

(آمین)



سلام میں الفاظ منصوصہ کی پیروی ضروری ہے

①..... جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((أُثْبِتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : ((لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى . قُلْ: أَلْسَلَامُ عَلَيْكَ)).

”میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: علیک السلام یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”علیک السلام مت کہو۔ اس لیے کہ علیک السلام مُردوں کا سلام ہے تو السلام علیک کہہ۔“^①

اسے مُردوں کا سلام زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے فرمایا ہے، ورنہ اسلام میں تو زندہ کے لیے السلام علیکم ہی ہے، جب کہ قبرستان میں مُردوں کے لیے دُعا کرتے وقت بھی یہی الفاظ وارد ہیں۔

السلام علیک اور علیک السلام میں معنی کے لحاظ سے بنیادی فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ السلام علیک نبی کریم ﷺ کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں جب کہ علیک السلام نہیں۔ بلکہ یہ جاہلیت کے لوگ مردوں کیلئے استعمال کرتے تھے۔ بنا بریں نبی کریم ﷺ نے آنے والے کو اس سے روکا اور اصل نبوی الفاظ کی تعلیم دی۔

②..... براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو اس طرح وضوء کرو جس طرح نماز کیلئے کیا جاتا ہے پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دُعا پڑھو:

① سنن أبی داؤد کتاب الأدب: باب کراهیة أن یقول: علیک السلام، صحیح رقم ۵۲۰۹، سنن الترمذی: الاستئذان: باب ما جاء فی کراهیة أن یقول: علیک السلام مبتدءاً۔ رقم ۲۸۷۷۔ الصحیحہ۔ رقم ۱۴۰۳

((اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ،
وَالْجَنَاتِ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا
مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزِلَتْ ، وَبِنَبِيِّكَ
الَّذِي أُرْسِلْتَ ، فَإِنْ مِتُّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ
مَا تَقُولُ ، فَقُلْتُ أَسْتَذِكْرُهُنَّ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسِلْتَ
. قَالَ : لَا : وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتَ))

”اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا
اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی (یہ سب کچھ) رغبت، شوق اور تجھ سے
ڈرتے ہوئے کیا، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ مقام نجات۔ میں تیری
اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو
نے (ہماری طرف) بھیجا۔“

اگر تم اسی رات فوت ہوئے تو مسلمان ہوتے ہوئے فوت ہو گے اور ان کو اپنے
آخری کلمات بناؤ۔ میں نے کہا: میں تو وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسِلْتَ یاد کرتا ہوں
(بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے یہ کلمات نبی ﷺ کے سامنے دھرائے
جب میں نے وِبِرَسُولِكَ پڑھا) تو آپ نے فرمایا: نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتَ
پڑھو۔^①

اس سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ الفاظ شریعہ میں اپنی طرف
سے اضافہ اور رد و بدل کرنا جائز نہیں بلکہ اس میں نص ہی کی اتباع ضروری ہے۔ رسول
اور نبی میں عام علماء کے نزدیک تواف ہے۔ یا بعض کے نزدیک رسول خاص ہے یعنی
معنی میں اعلیٰ ہے نبی سے۔ لیکن اس کے باوجود نبی ﷺ نے اس صحابی کو اس طرح

① صحیح البخاری، الدعوات : باب إذا بات طاهراً رقم الحديث ۵۹۵۲، کتاب الوضوء
رقم الحديث ۲۴۴

پڑھنے کی اجازت نہ دی۔

③..... نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں چھینک ماری اس نے کہا:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما: وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا، عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ))^①

”ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں بھی الحمد لله والسلام على رسول الله کہہ سکتا ہوں لیکن طریقہ یہ نہیں ہے (کہ چھینک آنے کے وقت الحمد لله کے ساتھ سلام کو ملایا جائے بلکہ) ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کہیں: الحمد لله على كل حال. (ہر حال میں اللہ تعالیٰ کیلئے حمد و ثنا ہے)۔“

ان نصوص سے یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ الفاظ شرعیہ کا اتباع ضروری ہے اور اس کے اندر کمی بیشی جائز نہیں۔ لہذا سلام اور جواب سلام کے وہی الفاظ معتبر ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ الفاظ کے علاوہ کمی بیشی والے الفاظ خلاف سنت اور ناجائز ہوں گے۔ اور اگر سلام کے الفاظ بالکل ترک کر دیے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے الفاظ، عربی یا دیگر زبانوں کے اختیار کئے جائیں تو وہ اسلام کا سلام نہیں ہوگا بلکہ وہ جاہلی طریقہ ملاقات ہوگا جو شریعت کو منظور نہیں۔ لہذا الفاظ سلام کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی جائز نہیں۔

اسلامی سلام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہے اور عربی میں ہے۔

① حسن: رواه الترمذی رقم الحديث ۲۷۳۸ كما في المشكاة، الآداب باب العطاس. قال الشيخ الألبانی: وإسناده جيد وأخرجه الحاكم وغيره. (حاشية الألبانی على المشكاة ۱/۱۳۴۱) إرواؤه ۳/۲۴۵

بنائیں بجائے اس کے دوسرے الفاظ و کلمات خواہ وہ عربی زبان کے ہوں یا غیر عربی زبان کے ان کا استعمال جائز نہیں۔ ہاں اگر اسلامی سلام کے بعد علاقائی کلمات ملاقات بولے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی محذور نہ ہونے کی صورت میں حرج نہیں۔

فائدہ: علیک السلام کے الفاظ سے سلام کہنا جائز نہیں لیکن اگر کسی نے لاعلمی کی وجہ سے کہہ دیا تو یہ شخص مستحق جواب ہے جیسا کہ ترمذی کی مذکورہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے اس کا جواب دینا ثابت ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ علیک السلام کے الفاظ کہنے والے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحیح طریقہ سلام بتلانے کے بعد مجھے جواب دیا۔ وعلیک ورحمة اللہ وعلیک ورحمة اللہ وعلیک ورحمة اللہ۔^①

سلام اور جواب سلام میں جہر اور سنانا ضروری ہے

علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((وَالسُّنَّةُ فِي السَّلَامِ وَالْجَوَابِ الْجَهْرُ . اور سنت (طریقہ) سلام اور جواب میں جہر ہے۔ فَإِذَا رَدَّ الْمُسْلِمُ (عَلَيْهِ) أَسْمَعَ جَوَابَهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْمَعْ الْمُسْلِمُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لَهُ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سَلَّمَ بِسَلَامٍ لَمْ يُسْمَعْهُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ سَلَامًا . فَكَذَلِكَ إِذَا أَجَابَ بِجَوَابٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فَلَيْسَ بِجَوَابٍ))^②

”مسلم علیہ جواب سنائے اگر سلام کہنے والے کو نہ سنائے تو یہ اس کی طرف سے جواب نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھتے سلام کہنے والا اگر سلام کہے اور مسلم علیہ کو نہ سنائے تو یہ اس کی طرف سے سلام نہیں ہے تو اسی

① سنن الترمذی مع التحفة/ الاستبذان رقم الحديث ۲۷۲۱۔ الصحيحة ۱۴۰۳

② الجامع لأحكام القرآن ۳/۵

طرح وہ جواب سلام کہے اور مسلم کو نہ سنائے تو وہ بھی جواب نہیں ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((وَأَقْلُ السَّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا أَنْ يُسْمَعَ صَاحِبَهُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ)) .

”سلام اور جواب سلام میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص کو سنایا جائے ورنہ اس سے کم سلام کافی نہیں۔“^①

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((لَا يَكْفِي السَّلَامُ سِرًّا ، وَأَقْلَهُ أَنْ يُسْمَعَ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَفِي الْجَوَابِ)) .

”سری (آہستہ) سلام کافی نہیں اور سلام کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ابتداء اور جواب دونوں سنے جائیں۔“^②

دلائل:

①..... ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

”تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ اور مؤمن نہیں

بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں

جس پر تم عمل کرو تو آپس میں محبت کرو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔“^③

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

① تحفة الأحوذی ۵۰۲/۷ نفلا عن شرح مسلم للنووی ۴۹۵، ۳۹۴/۷

② فتح الباری ۱۹/۱۱

③ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ دیکھئے ص: ۲۰

((اَلْاِفْشَاءُ الْاِظْهَارُ وَالْمُرَادُ نَشْرُ السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ))۔

”افشاء اظہار کو کہتے ہیں: اور مقصد اس سے لوگوں کے درمیان سلام کو پھیلانا ہے تاکہ لوگ آپ ﷺ کے طریقے کو زندہ کر دیں۔“^①

①..... ثابت بن عبید کہتے ہیں:

((اَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ فَإِنَّهَا تَحْيَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ))۔

”میں ایک مجلس میں آیا جس میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا: جب تو سلام کرے تو اُسے سنا (یعنی بلند آواز سے سلام کر) بیشک یہ سلام ایک مبارک پاکیزہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔“^②

③..... جہر کے بغیر سلام کا مقصد نہیں حاصل ہوتا لہذا جہر ضروری ہے۔

④..... نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا کہ سلام اور جواب سلام میں جہر کرتے تھے۔

ان نصوص سے ثابت ہوا کہ سلام اور جواب دونوں بلند آواز سے کہنا ضروری ہیں لیکن یہ بلند آواز (جہر) معتدل ہو نہ جہر مفرط ہو کہ سننے والا اس سے دقت اور تنگی محسوس کرے اور نہ ہی اتنا پست اور آہستہ ہو کہ مسلم علیہ یا مسلم اُسے سن ہی نہ سکے۔

الفاظ بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالرُّؤُوسِ وَالْأَكْفِ وَالْإِشَارَةِ))۔

”یہودیوں کی طرح سلام نہ کرو ان کا سلام سر، ہاتھ اور اشارے سے ہوتا

ہے۔“ ①

علماء نے اس جیسی احادیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سر، ہاتھ یا جسم کے دوسرے اعضاء سے اشارہ کر کے الفاظ بولے بغیر سلام کرنا یا جواب دینا جائز نہیں بلکہ یہودیوں اور متکبر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس نبی سے نمازی اور گونگا مستثنیٰ ہے یعنی نمازی دوران نماز سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے گا (جس کی تفصیل آ رہی ہے)

گونگے کا سلام اور جواب

گونگا شخص سلام اور جواب سلام اشارہ سے دے گا کیونکہ اشارہ گونگے کے حق میں بہت سے احکام میں تلفظ کے قائم مقام ہے۔ دیکھئے: الفقہ الاسلامی وأدلته (۱/۶۳۳، ۳/۷۰۰، ۴۶/۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة/ ۲۸۶]

”اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف (مجبور) نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔“

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن/ ۱۶]

”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ؛ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا تَهَيَّئْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ))

”جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اُسے کرو جتنا تم سے ہو سکے اور جس سے میں تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو۔“ ②

① أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۳۴۰ وسنده جيد على ما ذكره الحافظ في

فتح الباری ۱۱/۱۹، الصحیحہ رقم ۱۷۸۳

② صحیح البخاری رقم الحدیث ۷۲۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۷

لہذا اگر گونگے نے اشارے سے سلام کیا تو وہ مستحق جواب ہے اور اگر اس نے اشارے سے جواب دیا تو اس سے فریضہ جواب ساقط ہو گیا۔^①

اور اسی طرح جو شخص اتنا دور ہے کہ الفاظ سلام نہیں سن سکتا یا قریب ہے لیکن کسی رکاوٹ اور مانع کی وجہ سے الفاظ سلام نہیں سن سکتا لیکن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا بہرا ہے تو اُسے اشارے سے سلام کیا جائیگا اور ساتھ الفاظ سلام بھی بولے جائیں گے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: www.KitaboSunnat.com

((وَكَذَا مَنْ كَانَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ التَّسْلِيمَ يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَيْهِ إِشَارَةً وَيَتَلَفَّظُ مَعَ ذَلِكَ بِالسَّلَامِ))۔

”اسی طرح جو شخص اتنا دور ہے کہ سلام کے الفاظ نہیں سن سکتا تو اُسے اشارہ سے سلام کرنا جائز ہے اور سلام کرنے والا الفاظ سلام کا تلفظ بھی کرے گا۔“^②

اور بہرے شخص کو سلام کرتے وقت لفظ اور اشارہ دونوں کو جمع کیا جائیگا۔ اور اسی پر علمائے امت کا اتفاق ہے۔^③ اور وہ سلام کا جواب الفاظ سے دے گا۔

سب سے پہلے سلام پھر کلام

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ))

”جب تو اُس سے ملے تو اُسے سلام کہہ“ [مسلم]

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ))۔

① دیکھئے: الأذکار النووية / ۲۱۲ اور الآداب الشرعية ۱/ ۴۰۰

② فتح الباری ۱۹/ ۱۱

③ الأذکار للنووی ۲۱۲، رد المحتار ۵/ ۲۶۵، کشاف القناع ۲/ ۱۶۵

”جس نے سلام سے پہلے کلام شروع کیا تو اُسے جواب نہ دو۔“^①

ان حدیثوں میں تصریح ہے کہ ملاقات کی صورت میں بات شروع کرنے سے پہلے سلام ہو اس کے بعد دیگر باتیں اگر کسی نے اس سنت نبوی کی خلاف ورزی کی تو اُسے کوئی جواب نہ دو یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت نہ کرو یہاں تک کہ وہ سلام کرے۔

سلام میں پہل کون کرے؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) .

”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“

دوسری روایت میں ہے:

((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) .

”چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“^②

فائدہ: ان دو احادیث میں اس کا بیان ہے کہ سلام میں پہل کون کرے گا سلام میں پہل اور ابتداء کی اس ترتیب میں جو اصل حکمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اہل علم نے اپنی اپنی دانست کے مطابق جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

① رواہ ابن السنی فی عمل الیوم والليلة (۲۱۰) وقال الشیخ الالبانی حدیث حسن السلسلة الصحيحة رقم ۸۱۶ - بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔

② صحیح البخاری: الاستئذان رقم الحدیث ۵۸۷۹، ۵۸۸۰ پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے

سوار پیدل چلنے والے کو اس لیے پہلے سلام کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُسے سواری کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ہے کہ تواضع اختیار کرے۔ اگر پیدل چلنے والے کو حکم ہوتا کہ سوار کو پہلے سلام کہے تو خطرہ تھا کہ سوار میں تکبر پیدا ہو جائیگا۔ بنا بریں جو شخص کسی گاڑی، سائیکل، گھوڑے اور اس کے مثل چیزوں پر سوار ہے تو پیدل چلنے والے بلکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہلے سلام کہے اس لیے کہ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ كَالْفَاظِ فِي الْمَارِّ (گزرنے والا) پیدل چلنے والے اور کسی سواری پر سوار سب کو شامل ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الأدب المفرد میں بَابُ تَسْلِيمِ الرَّايِبِ عَلَى الْقَاعِدِ (سوار کا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہنا) کا باب باندھا ہے اس میں فضالہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ کی حدیث روایت کی ہے۔ ((يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ)) گھوڑا سوار بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔^①

گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے

اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ بیٹھے ہوئے شخص کا ہر گزرنے والے کی طرف بار بار از خود متوجہ ہو کر سلام کہنا مشکل ہے۔ جبکہ گزرنے والے کو ایسی کوئی مشکل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الأدب المفرد میں اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے فضالہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ کی حدیث روایت کی ہے جس میں ہے: ((يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ..... الحديث))

”گھوڑا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے اور پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے کو۔“^②

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: اگر قائم بمعنی مُسْتَقْبِر (قرار پکڑنے والا) لیا جائے تو پھر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے اور لیٹے ہوئے سب کو شامل ہے۔^③

① صحیح الأدب المفرد ۷۶۵، الصحیحۃ / ۱۳۵۰، ۱۱۵۹

② صحیح الأدب المفرد ۷۶۵، الصحیحۃ رقم ۱۱۵۹، ۱۴۵۰، جامع الترمذی ۶۲/۵ وقال

حدیث حسن صحیح، صحیح رقم ۲۸۵۹

③ فتح الباری ۱۶/۱۱

تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کہیں:

تھوڑے لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ زیادہ لوگوں کا تھوڑے لوگوں پر زیادہ حق ہے اور اس لیے بھی کہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں کو یا اکیلے کو پہلے سلام کہیں تو اس میں خود بینی اور کبر پیدا نہ ہو۔

چھوٹا بڑے کو سلام کہے:

چھوٹے کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بڑے کا حق چھوٹے پر زیادہ ہے کیونکہ چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کی توقیر کرے اور اس کے ساتھ با ادب رہے۔

جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو سلام میں پہل کرنے والا زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے:

جب دونوں ملنے والے برابر ہوں یعنی دونوں پیدل چلنے والے ہیں یا دونوں سوار ہیں تو دونوں کو پہل کرنے کا حکم ہے اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (اپنے درمیان سلام عام کرو) ان میں سے جو پہل کرے گا وہ افضل ہے۔ جیسا کہ دو قطع تعلق کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے)۔^①

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((وَالْمَاشِيَانِ اَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ اَفْضَلُ)) دو پیدل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کہے وہ افضل ہے۔ یہ حدیث موثوقہ و معروفہ دونوں طرح صحیح ہے۔^②

رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کہے گا؟ فرمایا: دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے۔

① متفق علیہ: بخاری: الأدب، مسلم: البر والصلة والأدب. عن أبي ايوب

② صحيح الأدب المفرد ٧٥٤/٩٨٣، الصحيحة ١١٤٦/

((عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ

أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ فَقَالَ أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ. ^①

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ. ^②

”لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جو لوگوں کو سلام میں

پہل کرے۔“

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

مذکورہ آداب راستے کے متعلق ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی بیٹھے ہوئے کے

پاس آئیں گے تو اس صورت میں بہر حال آنے والا ہی پہلے سلام کہے گا۔ خواہ وہ چھوٹا ہو

یا بڑا۔ تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ ^③

اگر وہ شخص جسے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے سلام نہیں کہتا تو دوسرے کو سلام کہہ دینا

چاہیے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیلانے کی بہت تاکید کی ہے۔

مجلس میں آنے والا اور مجلس سے جانے والا دونوں سلام کہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيَسْلَمْ فَإِنْ بَدَأَهُ أَنْ يَجْلِسَ

فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيَسْلَمْ فَلْيَسِتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ)).

”جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کہے اگر اس کا ارادہ بیٹھنے

کا ہے تو بیٹھ جائے، پھر جب اٹھے تو سلام کہے کیونکہ پہلے سلام کا حق

دوسرے سے زیادہ نہیں ہے۔“ ^④

① سنن الترمذی: ۲۸۵۴۔ الاستئذان وقال حدیث حسن۔ انظر صحيح الترمذی ۲۱۶۷،

الصحيحة رقم ۸۵۴

② صحيح سنن أبي داود: الأدب، ۵۱۹۷۔ نووی نے کہا: اس کی سند جید ہے۔ الأذکار للنووية

۲۱۴۔ حافظ نے کہا: سند حسن ہے۔ الفتوحات ۳۲۷/۵ ③ الأذکار للنووي ۲۱۹/

④ صحيح: مسند أحمد، أبو داود، ۵۲۰۸، ترمذی، ۲۸۶۱، وغيرهم عن أبي هريرة وصحيح

الجامع الصغير / ۴۰۰

عام طور پر معاشرے میں سلام متروک ہے مجلس میں آنے والا سلام نہیں کہتا ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے یا غیر اسلامی الفاظ بول کے۔ لیکن مجلس سے جاتے وقت سلام کہنا خواص کے نزدیک بھی متروک ہے۔ اپنے آپ کو بڑے پارسا، عالم اور نیک سمجھنے والے لوگ بھی جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو فی امان اللہ، اللہ حافظ اور خدا حافظ کے الفاظ کہہ کر رخصت ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل نبی کریم ﷺ کے طریقے اور حکم کے مخالف ہے۔ حکم یہ ہے کہ مجلس سے جاتے وقت السلام علیکم کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مجلس میں سے کسی ایک کو خاص کر کے اسے سلام کہنا مکروہ ہے:

الأدب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ بَابُ مَنْ كَوَّرَ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ۔ کسی کو خاص کر کے سلام کہنے کو جس نے ناپسند کیا اور اس کے تحت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مجمع میں سے متعین کر کے کہا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول ﷺ نے ٹھیک ٹھیک پہنچایا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ))

”کہ قرب قیامت میں سلام میں لوگوں کی تخصیص کی جائے گی۔“^①

اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں ایک بندے کو خاص کر کے سلام کہنا درست نہیں بلکہ سلام کو عام رکھا جائے۔

بار بار آنے جانے اور بار بار ملاقات ہو جانے کی

صورت میں بھی سلام کہنا ضروری ہے

رسول کریم ﷺ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اُسے سلام کیا جائے، خواہ یہ ملاقات کئی بار کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مسنی الصلاة (نماز بگاڑ کر پڑھنے والے) کے قصے میں بیان فرماتے ہیں:

((أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))

”ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم ﷺ مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے، اس نے نماز پڑھی پھر آیا اور آپ کو سلام کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوٹ جا، پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی،“ چنانچہ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی پھر آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے وعلیک السلام کہہ کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ”لوٹ جا، پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔“^①

اس حدیث میں تھوڑے سے وقفے اور فاصلے پر بار بار سلام کرنے کا اثبات ہے۔ اس مسئلے پر اس سے بھی زیادہ صریح نص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری حدیث ہے کہ

① صحیح البخاری : الاستئذان : باب من ردّ فقال : وعلیک السلام رقم الحدیث ۵۸۹۷

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ)).

”جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اُسے سلام کہے، پس اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے، پھر اُسے ملے تو اُسے سلام کہے۔“^①

صحابہ کرام اور تابعین نبی کریم ﷺ کے اس فرمان پر کس طرح عمل کرتے تھے، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشُونَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكْمَةٌ فَتَفَرَّقُوا يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ التَّقُوا مِنْ وَرَائِهَا، فَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)).

”رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام باہم مل کر چلتے تھے، پھر جب ان کے سامنے کوئی درخت یا ٹیلہ آتا تو وہ دائیں بائیں جدا ہو جاتے تھے، پھر اس کی دوسری طرف ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے۔“^②

مصنف ابن ابی شیبہ کے باب کا عنوان ہے: الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ كَلِمًا لَقِيَهُ. ایک شخص دوسرے کو سلام کہے گا جب بھی اور جتنی بار بھی ملے۔

نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں:

((كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا فِي أَرْضِ الرُّومِ قَبَالَتُ دَابَّتِي، فَقَامَتِ، قَبَالَتُ، فَلَحِقْتُهُ، فَقَالَ: أَلَا سَلَّمْتَ؟

① صحیح: سنن أبی داؤد: الأدب: باب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه هل يسلم عليه رقم الحديث ٥٢٠٠-الصحيحه ١٨٦

② صحیح: عمل اليوم والليلة لابن السنی رقم ٢٣٥ باب تسليم الرجل على أخيه إذا فرق بينهما الشجر ثم التقيا

فَقُلْتُ: إِنَّمَا فَارَقْتُكَ الْآنَ. قَالَ: وَإِنْ فَارَقْتَنِي الْآنَ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَسَايَرُونَ فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ الشَّجَرَةُ فَيَلْتَقُونَ فَيَسْلِمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)).

”میں ارض روم میں عبد اللہ بن ابی زکریا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، میری سواری پیشاپ کیلیے رکی پھر میں ان سے آلا، تو انہوں نے مجھ سے کہا: تم نے آکر سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا: ابھی ہی تو میں آپ سے جدا ہوا تھا۔ آپ نے کہا: خواہ ابھی ہی کیوں جدا نہ ہوئے ہو (تجھے پھر سلام کرنا چاہیے تھا) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ وہ باہم مل کر چل رہے ہوتے تھے، اگر راستے میں کوئی درخت آتا اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا تو دوسری طرف ملنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے۔“ ①

نبی کریم ﷺ کے عمل و تقریر اور قولی حدیث سے اور پھر صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل اور نہایت اہتمام کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت و واضح ہو گئی کہ بار بار ملنے اور آنے جانے کی صورت میں بھی سلام کہنا لازمی ہے اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وہ خسارے اور نقصان کے راستے پر چل رہے ہیں۔

اور اس سے ان لوگوں کی بات بھی مردود ثابت ہو گئی جو اس صورت میں حرج اور مشقت کا بہانہ بنا کر نصوص شریعت پر عمل نہ کرنے کیلئے بہانے اور حیلے ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کے ہاں آتے وقت نبی کریم ﷺ کے سلام کا طریقہ:

انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا))

”نبی کریم ﷺ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اُسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ اُسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب کسی قوم کے پاس آکر سلام کہتے تو سلام بھی تین مرتبہ کہتے۔^①

محدثین کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہوتے تو نبی ﷺ کا یہ طریقہ ہوتا جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین اور کتاب الأذکار میں بیان کیا ہے۔

اور بعض یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا تین بار سلام کہنا استفادہ ان، اور اجازت مانگنے کے وقت ہے۔ اس کی تائید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَالْأَفَارِجُ))

”اجازت طلب کرنا تین مرتبہ ہے پس اگر تجھے اجازت دے دی جائے (تو اندر چلا جا) ورنہ واپس لوٹ جا۔“^②

اور اس پر مزید روشنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کے اس اضافے سے پڑتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ الأدب المفرد (۱۰۷۳) میں لائے ہیں کہ میرے ہمراہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا:

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى أَتَاهُ فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ : قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعْ))

”ہم نبی ﷺ کے ساتھ نکلے، آپ سعد بن عبادہ کے ہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے آپ اس کے پاس آئے اور سلام کہا، تو اجازت نہیں ملی، پھر

① صحیح البخاری، العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً - رقم الحديث ۹۵

② صحیح البخاری، الاستئذان رقم الحديث ۶۲۴۵، صحیح مسلم، الاستئذان رقم الحديث ۲۱۵۳، واللفظ له۔

دوسری مرتبہ سلام کہا، پھر تیسری مرتبہ، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہم پر جو لازم تھا وہ ہم نے پورا کر دیا پھر واپس ہوئے۔“

تو سعد بن ابی وقاصؓ نکلا اور آپ کو پالیا، اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ! آپ نے جتنی مرتبہ سلام کیا میں سنتا رہا اور جواب دیتا رہا لیکن (اونچی آواز سے اس لیے نہیں دیا کہ) مجھے یہ پسند تھا کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے آپ کا سلام کہنا (سلامتی کی دعا) زیادہ حاصل ہو۔“

اپنے گھر میں آنے والا گھر والوں کو سلام کہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ [النور/ ٦١]

”جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں (گھر والوں) کو سلام کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمھارے بارکت اور پاکیزہ“

انس رضی اللہ عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ویسے والی حدیث میں بیان کرتے ہیں:

((فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ (السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ))

”پس نبی ﷺ نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف گئے اسے سلام کیا

اس نے وعلیک السلام ورحمة اللہ سے جواب دیا۔“^①

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ تمام بیویوں کے حجروں میں گئے اور ان

① صحیح البخاری، التفسیر، الأحزاب ۱۰۷/۲، صحیح مسلم، النکاح: باب زواج زینب بنت

کو سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔

ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ))

”تین اشخاص سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت میں ہیں (ان

میں سے ایک) رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وہ

شخص جو اپنے گھر میں سلام کہہ کر داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا

ہے۔“^①

(استئذان) اجازت طلب کرنے کا بیان

اجازت طلب کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا (مستأذن)

گھر وغیرہ کے مکینوں کو سلام کرے، دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو جائے

اور السلام علیکم کہے، چاہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد السلام علیکم کہے اگر اجازت ملے تو

داخل ہو جائے ورنہ واپس چلا جائے۔

ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ :

((حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ

فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : أَلْجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَاصِمِهِ

: اَخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانُ ، فَقُلْ لَهُ : قُلْ : السَّلَامُ

عَلَيْكُمْ ، أَدْخُلْ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

أَدْخُلْ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ))

”کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی ﷺ سے

اجازت طلب کی جب کہ آپ گھر کے اندر موجود تھے، پس میں نے ان

① سنن أبی داؤد، الجہاد رقم الحدیث ۲۴۹۴، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۴۹۹، الأدب المفرد

رقم الحدیث ۱۰۹۴۔ حدیث صحیح ہے

الفاظ میں اجازت مانگی: کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے خادم سے فرمایا: ”اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلاؤ اور اس سے کہہ دو کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگ: السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟“

پس اس آدمی نے سن کر کہا: السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں؟ پس نبی ﷺ نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔^①

کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِرْجِعْ فَقُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟))
 ”میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور سلام کئے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”واپس لوٹ جا اور اس طرح کہہ، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟“^②

مصنف ابن ابی شیبہ ۶/۸۶۶ میں ابن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، صحابی دروازے پر کھڑے تھے، اس آدمی نے تین مرتبہ کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ صحابی اُسے دیکھتے رہے اور اجازت نہ دی پھر اس آدمی نے کہا: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟ فَقَالَ ادْخُلْ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ قُمْتُ إِلَى اللَّيْلِ تَقُولُ : أَدْخُلْ ، مَا أَذِنْتُ لَكَ حَتَّى تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ))

”السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں؟ صحابی نے فرمایا: ہاں اندر آ جاؤ پھر اس سے کہا: اگر تو رات تک کھڑا رہتا اور کہتا کہ: کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو میں

① صحیح: سنن أبی داؤد، الأدب، کیفیة الاستئذان رقم الحديث ۵۱۷۷۔ الصبیحة: ۸۱۸

② صحیح: سنن أبی داؤد، الأدب، باب کیفیة الاستئذان رقم الحديث ۵۱۷۶، جامع

الترمذی، الاستئذان، باب ما جاء فی التسلیم قبل الاستئذان رقم الحديث ۲۸۶۵

تھے اجازت نہ دیتا یہاں تک کہ تو پہلے سلام کہتا۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں جو سلام کہنے سے پہلے اجازت طلب

کرتا ہے، فرمایا:

((لَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ))

”جب تک پہلے سلام نہ کہے اُسے اجازت نہیں دی جائیگی“

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

((لَا حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ؛ السَّلَامِ))

”نہیں اسے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ وہ چابی لائے

یعنی سلام کہے۔“^①

عبداللہ بن مسرور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ

يَسْتَقْبِلُهُ جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ))

”نبی ﷺ جب کسی ایسے دروازے کے پاس آتے جہاں آپ اندر

جانے کی اجازت طلب کرتے تو دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے

ہوتے تھے، بلکہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے، پھر اگر اندر آنے کی اجازت

ملتی (تو آپ اندر تشریف لیجاتے) ورنہ واپس لوٹ جاتے۔“^②

جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ : ”مَنْ ذَا؟“ فَقُلْتُ

أَنَا ، فَقَالَ : أَنَا أَنَا !! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا))

”میں نبی ﷺ کے پاس آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے پوچھا

① الأدب المفرد ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد

② الأدب المفرد ۱۰۷۸ وقال الألباني : حسن صحيح سنن أبي داود رقم الحديث ۵۱۸۶

”کون ہے یہ؟“ میں نے کہا ”میں“ ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں میں“ (کیا ہے؟) گویا آپ ﷺ نے اسے بُرا سمجھا۔^①

اس سے معلوم ہوا کہ اندر سے جب اجازت طلب کرنے والے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ ”میں“ ہوں بلکہ اپنا نام (اور اگر کنیت سے مشہور ہے) اور کنیت بتلائے، دروازہ کھٹکھٹانا اور اسی طرح گھنٹی بجا دینا بھی اجازت طلب کرنے کے مفہوم میں داخل ہیں پھر جب صاحب خانہ دروازے پر آئے تو پہلے اسے سلام کیا جائے پھر گفتگو کی جائے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((إِنْ أَبْوَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُفْرَعُ بِالْأُظْفِيرِ))

”نبی ﷺ کے دروازے ناخنوں سے کھٹکھٹائے جاتے تھے“^②

اجازت طلب کرتے وقت کتنی مرتبہ سلام کہہ سکتا ہے؟

اجازت طلب کرتے وقت مناسب وقفے کے ساتھ تین بار سلام کہے اگر اجازت ملے تو اندر جائے ورنہ لوٹ جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ))

”جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے، پھر اُسے

اجازت نہ ملے تو وہ واپس لوٹ جائے“^③

ابو العلاء البصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے سلام کیا، لیکن مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے سلام کیا، پس اندر آنے کی

① صحیح البخاری، الاستئذان رقم الحديث ۶۲۵۰، صحیح مسلم، الاستئذان رقم الحديث ۲۱۵۵

② الأدب المفرد رقم الحديث ۱۰۸۰، الصحیحة، رقم الحديث ۲۰۹۲

③ صحیح: سنن أبی داؤد، الأدب، باب کم مرة یسلم الرجل فی الاستئذان رقم الحديث ۵۱۸۰

اجازت نہیں ملی، پھر تیسری مرتبہ میں نے آواز کو ذرا بلند کر کے کہا: السلام علیکم اے اہل خانہ! لیکن مجھے پھر بھی اجازت نہیں ملی میں وہاں سے ہٹ کے ایک جگہ میں بیٹھ گیا۔ تو گھر سے ایک غلام نکل آیا اور اس نے کہا: اندر آ جاؤ، میں اندر گیا، تو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: (أَمَّا إِنَّكَ لَوِ زِدْتُ لَمْ يُؤْذِنْ لَكَ)۔

اگر تو تین بار سے زیادہ سلام کہہ کر اجازت طلب کرتا تو تجھے اجازت نہ ملتی۔^①

ٹیلیفون میں سلام میں پہل کون کرے؟

ٹیلیفون ملانے والا آنے والے کے حکم میں ہے تو جس طرح آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی کے گھر یا مجلس میں جائے تو آغاز السلام علیکم سے کرے اسی طرح ٹیلیفون کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گفتگو کا آغاز اور اختتام السلام علیکم سے کرے، یعنی بیل دینے کے بعد رابطہ ہونے پر سب سے پہلے السلام علیکم کہہ کر گفتگو کو شروع کرے۔ فون میں رابطہ ہو جانے کا علم فون کرنے والے کو ہو جاتا ہے تو جب اسے علم ہو جائے کہ رابطہ ہو گیا ہے تو السلام علیکم کہہ کر اپنا تعارف کر کے بات شروع کرے ہمارے معاشرہ میں یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ فون ملانے والا رابطہ ہونے پر اس وقت تک بات کو شروع نہیں کرتا جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ دوسری طرف فون اٹھانے والا کون ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ ہمارے دیندار حضرات میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ فون وصول کرنے والا السلام علیکم کہتا ہے حالانکہ سلام کہنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مسنون طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ آنے والا السلام علیکم کہہ کر اپنی آمد کی اطلاع دے اگر فون کرنے والے نے سلام کیا ہے تو وصول کرنے والا جواب سلام دے اور اگر اس نے سلام نہیں کیا تو وصول کرنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے اور اگر فون کرنے والے کو رابطہ ہونے کا پتہ نہ چلا ہو تو وصول کرنے والا مِّنْ هَذَا یہ کون ہے؟ پوچھ سکتا ہے۔

② صحیح: الأدب المفرد رقم الحدیث ۱۰۷۷، مصنف عبدالرزاق ۱۰/۳۸۱ (الصحيحہ ۲۹۵۱)

اس کی دلیل

جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کے بعد آپ ﷺ نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ مَنْ هَذَا؟ سے سوال کیا، اور اگر فون کرنے والے کو رابطہ ہو جانے کا پتہ چل گیا ہے اس کے باوجود وہ السلام علیکم نہیں کہتا تو پھر اسے ربیع بن حراش کی حدیث کے مطابق طریقہ استئذان (اجازت طلب کرنے کا طریقہ) سکھایا جائے۔ اور دوبارہ فون کرنے کا کہا جائے فون وصول کرنے والے کے ذمہ سلام کہنا اس لیے بھی نہیں ہے کہ عام طور پر فون کرنے والے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر وغیرہ۔

فائدہ: فون وصول کرنے والے پر لازم نہیں کہ وہ سلام کرے تاہم اگر یہ سلام میں پہل کرے تو خیرُہُمَا الَّذِیْ یَبْدَأُ بِالسَّلَامِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔

خطیب کا جمعہ کے دن منبر پر چڑھنے کے بعد حاضرین کو سلام کہنا:
بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطیب کا منبر پر چڑھنے کے بعد حاضرین کو سلام کہنا سنت ہے اس کی دلیل جابر کی روایت ہے کہ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعَدَ الْمُنْبَرِ سَلَّمَ))

”جب نبی ﷺ منبر پر چڑھ جاتے تو سلام کہتے“۔^①

شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض دیگر علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں شیخ دکتور بشار عواد معروف ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: إسناده ضعیف لابن لہیعۃ اس کی سند ابن لہیعہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ شیخ زبیر علی زئی الصحیفۃ میں لکھتے ہیں: إسناده ضعیف. ابنُ لہیعۃ غننٌ وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدٌ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ۔ اس کی سند ضعیف

① ابن ماجہ ۱۱۰۹، کتاب الجمعة، الصحیحۃ ۲۰۷۶

ہے ابن لہیعہ نے عنعنہ کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق وابن ابی شیبہ وغیرہ میں اس کے ضعیف شواہد ہیں۔ عبدالحق نے بھی الأحکام میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اس کے شواہد مرسل ہونے کے علاوہ سزا بھی ضعیف ہیں۔ عطاء کے مرسل میں ابن جریج کا عنعنہ ہے اور شعبی کے مرسل میں مجالد ضعیف راوی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے اثر میں اسماعیل بن عیاش کا عنعنہ ہے۔^①

لہذا مذکورہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے اس خصوصیت کے ساتھ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تاہم مسئلہ احادیث صحیحہ کے عموم سے ثابت ہے، اس لیے کہ مجلس میں آتے وقت سلام کہنا ضروری ہے اور جب خطیب مسجد میں آتا ہے تو اس بناء پر اُسے چاہیے کہ حاضرین کو سلام کہے اور حاضرین اس کا جواب دیں۔ اگر مذکورہ حدیث صحیح ہو جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے تو پھر مذکورہ خصوصیت کے ساتھ یعنی منبر پر چڑھنے کے بعد سلام کہنے کی مسنونیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جو طریقہ عام خطباء کا ہے کہ منبر پر بیٹھنے اور اذان ہونے کے بعد جب خطبہ شروع کرتے ہیں اس وقت سلام کہتے ہیں وہ ہرگز اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور ہمارے علم کے مطابق نبی ﷺ سے یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ آپ نے خطبہ و تقریر سے متصل پہلے السلام علیکم کہا ہو۔

اور یہ طریقہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تقریر شروع کرتا ہے تو اٹھ کر السلام علیکم کہتا ہے۔ بات ختم کر کے السلام علیکم کہہ کر اس مجلس میں پھر بیٹھ جاتا ہے ہمیں اس طرز عمل پر کوئی دلیل معلوم نہیں۔

اس کے علاوہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ نبی ﷺ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کہتے پھر منبر پر چڑھنے کے بعد پھر سلام کہتے۔^②

① دیکھئے: مصنف عبدالرزاق ۱۹۲/۳ رقم ۵۲۸۲، ۵۲۸۱، مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۴۴۹، رقم الحدیث ۹۱۹۵۔

② ابن عدی ۲/۲۹۶، البیہقی ۳/۱۲۰، الضعیفہ ۴۱۹۴، زاد المعاد ۱/۲۶۱

خالی مکان میں داخل ہوتے وقت سلام کے الفاظ:

نافع عرشیہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

((إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ))

”جب غیر رہائشی مکان (گھر) میں داخل ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر“۔^①

خطوط میں سلام لکھنا:

نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا کہ خطوط میں سلام لکھتے تھے، نبی کریم ﷺ کے والئی بحرین کے نام ارسال کردہ خط میں یوں تحریر ہے:

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى سَلَامٌ عَلَيْكَ))

”بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے منذر بن ساوی کو، تجھ پر سلامتی ہو“۔^②

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عبد الملک بن مروان کی طرف خط لکھا تو اس میں بھی انہوں نے سلام علیک تحریر کیا۔^③

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو اس میں تحریر تھا، سلام علیک ورحمة اللہ۔^④

اسی طرح دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس خط کے آخر میں بھی سلام تحریر تھا۔

① الأدب المفرد ۱۰۵۵۔ شیخ البانی اور حافظ ابن حجر (الفتح ۱۷/۱۱) نے اسے حسن قرار دیا ہے

② زاد المعاد ۳/۳۹۲

③ الأدب المفرد ۱۱۱۹ شیخ البانی نے فرمایا: صحیح الإسناد

④ الأدب المفرد ۱۱۲۲ (حسن الإسناد)

خط کے سلام کا جواب تحریراً دینا مشروع ہے۔ ابو عثمان النخعی بیان کرتے ہیں کہ: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک راہب کو خط میں سلام لکھا، کسی نے ان سے کہا: آپ کا فرکو سلام لکھتے ہیں؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ((إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ)) اس نے میری طرف ارسال کردہ خط میں سلام لکھا ہے، اس لیے میں نے اس کا جواب دیا۔^①

سلام بھیجنا اور غائبانہ سلام کا جواب دینا، کسی کو سلام بھیجنا اور غائبانہ سلام کا جواب دینا یہ نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے آکر کہا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَنْجَهْزُ بِهِ، قَالَ: ”أَذْهَبْ إِلَى فُلَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضْ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ“))

”اے اللہ کے رسول! میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے جس سے میں تیاری کر سکوں (سامان جہاد خریدوں) آپ نے اس سے فرمایا: ”فلاں انصاری کے پاس جا اس نے سامان جہاد تیار کر لیا تھا پھر بیمار ہو گیا، اسے کہہ دو کہ رسول اللہ ﷺ تجھے سلام کہتے ہیں اور یہ کہو کہ مجھے وہ سامان جہاد دے دو جس کے ساتھ آپ نے تیاری کی تھی“۔^②

زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ویسے کی لمبی حدیث جو انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ کا نکاح زینب بنت جحش (رضی اللہ عنہا) سے ہو گیا تو میری والدہ

① الأدب المفرد رقم الحديث ۱۱۰۱، الصحيحة ۳۲۶/۲

② صحيح مسلم، الإمارة ۱۳۴، سنن أبي داود (واللفظ له) الجهاد ۲۷۸۰

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک برتن میں حلہ دے کر مجھے نبی ﷺ کی طرف بھیجا اور کہا:

((فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقَرِّئُكَ السَّلَامَ))

”رسول اللہ ﷺ سے کہہ دو کہ اس کو میری والدہ نے آپ کے لیے بھیجا

ہے اور وہ آپ کو سلام کہتی ہیں۔“^①

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا ابو عامر رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ

اوطاس کے موقع پر گھٹنے میں تیر لگا پھرانہوں نے مجھ سے کہا:

((يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي))

”بھتیجے! میری طرف سے نبی ﷺ کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ

تعالیٰ سے بخشش مانگ۔“^②

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سلام بھیجنا ایک مسنون عمل ہے۔ امام نووی زینب

بنت جحش رضی اللہ عنہا والی حدیث کے تحت لکھتے ہیں: وَفِيهِ اسْتِجَابُ بَعْثِ السَّلَامِ إِلَى

الصَّاحِبِ، اس حدیث میں اپنے صاحب کو سلام بھیجنے کا استحباب ثابت ہو رہا ہے۔

غائبانہ سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ))

”یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں

نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ۔“^③

اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے اثبات کے علاوہ غائبانہ سلام کا جواب

① صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب زواج زینب بنت جحش ۳۵۰۷۔ طبع قدیمی کتب خانہ

② صحیح البخاری: المغازی، غزوہ اوطاس، ۴۲۲۳

③ صحیح البخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، ۳۲۱۷، الاستئذان ۵۸۹۸،

صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، ۲۴۴۷۔

دینے کے طریقے کا بیان ہے کہ وعلیکم کی بجائے غائب کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔
فائدہ: جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا:

((إِنَّ أَبِي يُقْرِأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتِكَ
 السَّلَامُ))

”میرے والد آپ کو سلام کہتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: علیک
 وعلی ایتک السلام (تجھ پر اور تیرے والد پر سلامتی ہو)۔“^①

تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام منذری نے ترغیب ۱/۶۲۰/۱۱۷۲ میں کہا:
 اس کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشکاة ۲/۱۹۳ میں کہا
 إسناده ضعیف اس کی سند ضعیف ہے۔ عجالة الراغب المنقھی کے مؤلف سلیم بن عید
 اٹھالی اور شیخ زبیر علی زئی نے بھی موافقت کی ہے۔

کیا سلام پہنچانے والے کو بھی جواب سلام دیا جائے گا؟:

اس بارے میں علماء کے ہاں یہ تفصیل ہے کہ سلام بھیجنے والے کو تو جواب سلام دینا
 واجب ہے، جب کہ سلام پہنچانے والے کو مستحب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام
 نسائی نے عمل الیوم واللیلہ ص ۳۰۱ حدیث نمبر ۳۷۴ میں اور امام حاکم نے
 المستدرک ۳/۱۸۶ میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا
 سے فرمایا: یہ جبریل ہیں، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اپنی طرف سے سلام
 کہتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا:

((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ))

① عمل الیوم واللیلہ لابن السنی ۲۴۱ سنن أبی داؤد ۵۲۳۱ البانی نے ابوداؤد میں اس کو حسن کہا
 ہے لیکن درحقیقت حدیث ضعیف ہے۔

”یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ”السلام“ ہے اور جبریل پر سلام ہو اور آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت۔“

امام حاکم نے فرمایا: ((حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ)) ”حدیث صحیح علی شرط مسلم ہے۔“

امام ذہبی نے اس پر سکوت کیا ہے۔ یاد رہے کہ جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام کا ذکر صحیح بخاری ۵۳۹/۱ (قدیمی کتب خانہ) میں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: الآداب الشرعية ۱/۴۱۹ الأذکار للنووی ص ۲۱۲۔



حصہ دوم

مسلمانوں کے معاشرہ میں سلام کیوں متروک ہے؟

کیا مسجد میں سلام کہنا ممنوع ہے؟

فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:

((اَلْسَّلَامُ تَحِيَّةُ الزَّائِرِينَ ، وَالَّذِينَ جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ
لِلْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ أَوْ لَا تَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ؛ مَا جَلَسُوا فِيهِ لِدُخُولِ
الزَّائِرِينَ عَلَيْهِمْ؛ فَلَيْسَ هَذَا آوَانُ السَّلَامِ؛ فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ
، وَلِهَذَا قَالُوا: وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ الدَّاخِلُ وَسِعَهُمْ أَنْ لَا يُجِيبُوهُ
، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ))^①

”سلام ملاقات کے لیے آنے والوں کی طرف سے تحیہ و تحفہ ہے اور جو لوگ
مسجد میں پڑھنے، تسبیح و ذکر کرنے کے لیے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں،
وہ ملاقاتیوں کے لیے نہیں بیٹھے، پس یہ سلام کہنے کا موقعہ نہیں ہے؛ لہذا
ملاقات کے لیے آنے والا شخص ان کو سلام نہیں کہے گا، اور اسی وجہ سے
مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر آنے والے نے سلام کیا؛ تو اس کے سلام کا
جواب نہ دینا درست ہے اسی طرح قنویہ میں ہے۔“

فقیہ الاحناف علامہ ابن عابدین شامی اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب ”رد المحتار“ میں
اپنے شیخ المشائخ الشہاب احمد المنین، کا یہ شعر نقل کر کے تفریع کرتے ہیں:

وَمَنْ جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِمْ

وَتَسْبِيحِهِمْ هَذَا عَنِ الْبَعْضِ يُسْمَعُ

”بعض کے نزدیک جو لوگ مسجد میں نماز کے انتظار میں یا ذکر و تسبیح پڑھنے

کے لیے بیٹھے ہیں ان کو سلام کہنا مکروہ ہے۔“

((وَالْجَالِسِينَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَسْبِيحٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرِ حَالِ التَّذَكُّرِ))^①

”یعنی مسجد میں تسبیحات پڑھنے، قراءت اور ذکر کے لیے بیٹھنے والوں کو

حالت ذکر میں باہر سے آنے والے کے سلام کا جواب نہ دینا درست ہے۔“

جیسا کہ شرح الشریعہ میں فقہاء سے یہ تصریح نقل ہے۔

ان عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں سلام کہنا مکروہ و ممنوع ہے، خواہ مسجد میں موجود لوگ پڑھنے، تلاوت کرنے اور تسبیح و ذکر کیلئے بیٹھے ہوں، یا کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوں بلکہ صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں۔

یہاں بھی حضرات احناف نے ایسا ہی ایک قاعدہ بنایا ہے کہ:

السَّلَامُ تَحِيَّةُ الزَّائِرِينَ لِلْمَزُورِينَ ہے۔

اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ: سلام زیارت و ملاقات کے لیے آنے والے کی طرف سے اس شخص کے لیے جو اس کی ملاقات کے لیے بیٹھا ہے اور منتظر ہے، ایک تحفہ، تحیہ اور گفٹ ہے، اس کی وضاحت اس مثال سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا ہے لیکن وہ شخص جس سے یہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ ملاقات و ”مصافحہ“ کے لیے تشریف فرما نہیں ہے، بلکہ کسی اور مقصد سے اپنی جگہ میں بیٹھا ہے، تو جب یہ آنے والا شخص اس کے پاس جائے گا تو سلام نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ سلام کا محل نہیں ہے، اسی طرح آنے والا شخص شرف زیارت و ملاقات حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہے، بلکہ اپنے کسی دیگر مقصد کے لیے آیا ہے، مثلاً مسئلہ پوچھنے آیا ہے، سوال کرنے آیا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہے تو یہ بھی سلام نہیں کہے گا اس کا سلام کہنا بے موقعہ ہے، اور اسی لیے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اس قاعدے کو سمجھنے

کے لیے عالمگیری اور شامی کی مذکورہ عبارت کو ایک بار پھر پڑھیے اور ابن عابدین کی اس عبارت کا بغور مطالعہ کیجئے۔

ابن عابدین رقمطراز ہے:

((قَوْلُهُ: (جَالِسٌ لِقَضَائِهِ) قَاسَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا الْوَلَاةَ وَالْأَمْرَةَ عَلَى الْقَاضِي، قَالَ شَمْسُ الْأَيْمَةِ الشَّرْحَسِيُّ: الصَّحِيحُ الْفَرَقُ، فَالرَّعِيَّةُ يُسَلِّمُونَ عَلَى الْأَمْرَاءِ وَالْوَلَاةِ، وَالْخُصُومُ لَا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْقَضَاةِ، وَالْفَرَقُ أَنَّ السَّلَامَ تَحِيَّةَ الزَّائِرِينَ وَالْخُصُومُ مَا تَقَدَّمُوا إِلَى الْقَاضِي زَائِرِينَ بِخِلَافِ الرَّعِيَّةِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ جَلَسَ الْقَاضِي لِلزِّيَارَةِ فَالْخُصُومُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَلَوْ جَلَسَ الْأَمِيرُ لِفَضْلِ الْخُصُومَةِ لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الثَّامِنِ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّارِخَانِيَّةِ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْخُصُومَ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُفْتِي لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ. تَأَمَّلْ))^①

”مصنف کے اس قول کہ قاضی کو سلام نہیں کیا جائے گا ہمارے بعض مشائخ نے حکمرانوں اور افسروں کو بھی اس پر قیاس کر لیا ہے کہ ان کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا لیکن شمس الأئمہ سرخسی کا قول یہ ہے کہ قاضی اور حاکم کے درمیان فرق ہے، رعیت اپنے امیروں اور حکمرانوں کو سلام کرے گی اور خصوم (مخالفین) قاضی کو سلام نہیں کریں گے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ سلام زائرین (ملاقاتیوں) کا تحیہ ہے، اور خصوم (فیصلے کے لیے آنے والے) تو بحیثیت زائرین و ملاقاتیوں کے نہیں آتے، بخلاف رعیت کے (کہ وہ اپنے امراء کے پاس بحیثیت زائر و ملاقات کے جاتے ہیں لہذا ان کا سلام کہنا صحیح ہے) اس وجہ سے اگر قاضی ملاقات کے لیے

بیٹھے تو خصوم اس کو سلام کریں گے (اس لیے کہ قاضی ملاقات کے لیے بیٹھا ہے اور فریقین (خصوم) فیصلہ کروانے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آرہے ہیں) اور اگر حاکم، افسر کسی تنازعہ کے فیصلے کے لیے بیٹھے تو پھر رعیت بھی ان کو سلام نہیں کرے گی یہ بات تاتار خانہ کے باب الکراہیت میں ہے۔ اس تفصیل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں یہ فریقین مفتی کے پاس آئیں گے تو اسے سلام نہیں کریں گے (اس لیے کہ مفتی تو مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھا ہے، ملاقات اور سلام کے لیے نہیں بیٹھا)

فقہ حنفی کی ایک اور معتبر کتاب الاختیار لتعلیل المختار میں ہے۔

((وَإِذَا جَلَسَ الْقَاضِي نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْحُكْمِ لَا يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ وَلَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ جَلَسَ لِلْحُكْمِ وَالسَّلَامُ تَحِيَّةُ الزَّائِرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغَلَ بِمَا جَلَسَ لِأَجْلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَعَلَى هَذَا مَنْ جَلَسَ يُفَقِّهُ تَلَامِيذَهُ وَيُقَرِّأَهُمُ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَسَلَّمَ وَسِعَهُ أَنْ لَا يَرُدَّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَلَسَ لِلتَّعْلِيمِ لَا لِرَدِّ السَّلَامِ))^①

”اور جب قاضی مسجد کے کسی کونے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، تو فریقین کو سلام نہیں کرے گا۔ اور خصوم (فریقین) بھی ان کو سلام نہیں کریں گے، اس لیے کہ قاضی تو فیصلے کے لیے بیٹھا ہے اور سلام تو ملاقات کے لیے آنے والوں کی طرف سے تحیہ و تحفہ ہے۔ تو قاضی کو چاہیے اس کام میں مصروف رہے جس کے لیے بیٹھا ہے اور اگر انہوں نے اس کو سلام کیا تو قاضی کو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بنا بریں جو شخص اپنے شاگردوں کو فقہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو قرآن پڑھاتا ہے، پس کسی آنے والے نے آکر اسے

سلام کیا۔ تو اسے سلام کا جواب نہ دینے کی گنجائش ہے؟ اس لیے کہ یہ صاحب تو پڑھانے اور تعلیم کے لیے بیٹھا ہے سلام کے جواب دینے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہے۔“

قاعدے پر مزید روشنی فتاویٰ قاضی خان کی اس عبارت سے پڑتی ہے:

((وَلَا يَجِبُ الرُّدُّ سَلَامَ السَّائِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّحِيَّةِ))^①

”سائل کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اس کا سلام تو تحیہ و ملاقات کا سلام نہیں ہے (بلکہ آنے سے اس کی غرض سوال کرنا ہے) ملاقات نہیں“

ان تمام تفصیلات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سلام کی مشروعیت و مسنونیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔

① آنے والے کا خالص بیت ملاقات و زیارت آنا ② مزدور (جس سے ملاقات مقصود ہو) کا صرف برائے ملاقات و سلام بیٹھنا، دونوں شرطیں موجود ہوں تو سلام مشروع و مسنون ہے، ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو سلام کہنا مشروع و مسنون نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ قاعدہ ہے جس کے ذریعے فقہ حنفی میں بہت سے مواضع و مواقع پر سلام کہنے کو ناجائز اور مکروہ لکھا گیا اور سلام کے افشاء و پھیلاؤ کے حکم پر عمل نہ ہو سکا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے کلام کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نادرست قاعدہ ہے اس پر نہ تو قرآن مجید سے دلیل ہے اور نہ ہی سنت سے، بلکہ قرآن و سنت کی صریح نصوص سے یکسر مخالف ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی نصوص اس کی زد میں آکر رد کر دی گئی ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مذکورہ اقوال و قواعد خود صاحب مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے نہ تو سند صحیح ثابت ہے اور نہ ہی سند ضعیف، بلکہ بعد کے زمانے کے فقہائے احناف نے خود بنا کر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں قرآن مجید میں ہے:

① فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الہندیہ، رد المحتار ۲۹۳/۵

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾

[النساء / ۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اس کا اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔“

اس آیت کریمہ میں باتفاق مفسرین تحیہ سے مراد سلام ہے اور ابن العربی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ^① قرطبی رحمہ اللہ نے کہا: اَلتَّحِيَّةُ السَّلَامُ ^② تحیہ سلام ہی ہے اور یہی بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی بیان کی ہے ^③ اور اسی آیت کریمہ سے سلام کے جواب دینے کا واجب ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا:

اَلْحُجَّةُ فِي فَرَضِ رَدِّ السَّلَامِ ، قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی : ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾ [النساء / ۸۶] وَالرَّدُّ وَاجِبٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ . ^④

”سلام کے جواب کے فرض ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے (جو ذکر ہوا) اور جواب دینا سب کے نزدیک واجب ہے۔“ تو کیا اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ صرف زیارت و ملاقات کی نیت سے آنے والے کو سلام کا جواب دو بشرطیکہ تم بھی اس کی ملاقات و زیارت کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہو؟ ہرگز نہیں ہے بلکہ آیت کریمہ تو اس میں صریح ہے کہ جو بھی جس وقت سلام کرے اس کا جواب دیا جائے اور مذکورہ قاعدہ اس کے خلاف ہے۔

سورة الذاریات میں ہے:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾

[الذاریات / ۲۵، ۲۴]

① احکام القرآن ۱/ ۴۹۶ دار الفکر

② الجامع لأحكام القرآن ۵/ ۲۹۷

③ تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۵۰۳

④ التمهید ۵/ ۲۸۹، ۲۸۸

مسلم معاشرہ میں سلام ترک کیوں؟

”کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔“

اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آنے والے مہمانوں کو نہیں پہچانتے تھے ان کی ملاقات و زیارت کے لیے مجلس نہیں سجائے بیٹھے تھے اور ان مکرم مہمانوں نے باوجودیکہ ابراہیم علیہ السلام ملاقات و زیارت کے لیے تشریف فرما نہیں سلام کیا۔

اس میں اس ضابطے پر صریح رد ہے، اب ہم چند احادیث نقل کرتے ہیں جس سے اس کی نادرستی مزید آشکارا ہو جائے گی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ))^①

”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے شخص کو اور تھوڑے لوگ زیادہ کو۔“

اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

((وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ)) ”اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے“

یہ راستے کے آداب ہیں۔ مذکورہ قاعدے کی رو سے تو راستے میں سلام مشروع ہی نہیں؛ اس لیے کہ اس میں تو ایک دوسرے کے لیے ملاقات کی شکل حنفی کا وجود ہی نہیں ہے تو اس سے مذکورہ قاعدے کا غلط ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا:

((أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى

مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ))^②

① متفق علیہ، صحیح البخاری کتاب الاستئذان باب یسلم الراكب علی الماشی رقم

الحديث: ۶۲۳۲ صحیح مسلم کتاب السلام رقم الحديث: ۵۶۶۶۔

② صحیح البخاری کتاب الإیمان باب إفاء السلام من الإسلام رقم الحديث: ۲۸

”اسلام کا کونسا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”لوگوں کو کھانا

کھلانا اور سلام کہنا جن کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))^①

”اپنے درمیان سلام کو عام کرو“

اور حدیث:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ))^②

”مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: جب بھی تم اسے ملو تو اسے سلام کہو۔“

ان سب احادیث سے احناف کے مذکورہ قاعدے پر صریح رد ہوتا ہے؛ اس لیے کہ ان احادیث میں کہیں پر بھی سلام کو ان قیود و شروط کے ساتھ مقید و مشروط نہیں کیا گیا جو کتب فقہ میں ذکر ہیں۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث تو اس باب میں بہت ہی صریح ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں اس میں بیٹھ کر ہم باہمی بات چیت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نہیں مانتے تو راستے کو اس کا حق دو۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: وَمَا حَقُّهُ؟ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((عَصُ الْبَصْرِ، وَكَفِّ الْأَذْي، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ))^③

① صحیح مسلم۔ کتاب الإیمان۔ باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون رقم الحديث ۱۹۴:

② صحیح مسلم۔ کتاب السلام۔ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام رقم الحديث ۵۶۵۱:

③ متفق عليه: البخاری، کتاب الاستئذان۔ باب بدء السلام رقم الحديث ۶۲۲۹، صحیح مسلم

”نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی

سے روکنا۔“

اس میں نہ تو صحابہ کرام کسی زائر ملاقاتی کے لیے مجلس سجائے ہوئے ہیں اور نہ ہی راستے سے گزرنے والا ان کی زیارت و ملاقات کے لیے آ رہا ہے بلکہ راستے سے گزرنے والا سلام کہتا ہے اور صحابہ کرام سلام کے جواب دینے کے پابند بنائے گئے ہیں۔

قرآن و سنت کی ان واضح نصوص سے ثابت ہوا کہ احناف کا قاعدہ انتہائی غلط ہے۔ فقہائے احناف نے اسی قاعدے کی وجہ سے کہا کہ: ذاکر، خطیب، مدرس، قاری، قاضی، مفتی، فقہ کا مطالعہ کرنے والا اور پڑھانے والا، محدث اور ان میں سے کسی ایک کو سننے والا، کھانا کھانے والا، نمازی اور مؤذن وغیرہ کو سلام کہنا مکروہ ہے اور ان کا جواب دینا بھی مکروہ اور ساقط ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک مسئلہ کے بارے میں علیحدہ علیحدہ تفصیلی کلام کریں۔

مسجد میں سلام کہنا مشروع و مسنون ہے:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث:

جس میں ہے کہ نبی ﷺ مسجد قباء تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھنے لگے:

((فَجَاءَهُ تِلْكَ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ : فَقُلْتُ لَيْلًا : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : يَقُولُ هَكَذَا ، وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ) كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ))^①

① سنن أبي داود۔ کتاب الصلاة۔ باب رد السلام فی الصلاة رقم الحديث ۹۲۷ والترمذی۔ أبواب الصلوة۔ باب ما جاء فی الإشارة فی الصلاة رقم الحديث ۳۶۸ وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”انصار آئے اور انہوں نے آپ کو حالت نماز میں سلام کیا، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: جب انصار نبی ﷺ کو سلام کہہ رہے تھے تو آپ ﷺ نے حالت نماز میں سلام کا جواب کس طرح دیا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ اس طرح، اور اپنی ہتھیلی کو کھولا (راوی حدیث) جعفر بن عون نے بھی اپنی ہتھیلی کو کھولا اور ہتھیلی کے پیٹ کو نیچے کی طرف کر کے اور پشت کو اوپر کی طرف کر کے (سلام کیا)۔“

یہ حدیث مسجد کے اندر سلام کہنے کی مشروعیت پر ظاہر ہے اور نمازی کو سلام کہنے کی مشروعیت پر نص ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حدیث مسیء الصلاة کے نام سے معروف ہے اس میں ہے:

((أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.....الخ))^①

”ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ ﷺ مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے اس نے نماز پڑھی پھر آیا اور آپ ﷺ کو سلام کیا، رسول اللہ ﷺ نے وعلیک السلام کہا اور فرمایا: ”واپس جا اور نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ گیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر آیا اور سلام کیا، رسول اللہ ﷺ نے وعلیک السلام کہہ کر فرمایا: ”واپس جا اور نماز پڑھ تحقیق تو نے نماز نہیں پڑھی.....الخ۔“

① صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب من رد فقال : وعلیک السلام رقم الحدیث

ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اس نے نبی ﷺ کو مسجد حرام کے اندر سلام کیا:

((فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَإِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ : قُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، مَنْ أَنْتَ ؟))^①

”نبی ﷺ تشریف لائے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام براہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، پس میں آپ کے پاس آیا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلام والا سلام کیا ہے، میں نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! آپ نے جواب میں فرمایا: وعلیک ورحمة اللہ، آپ کون ہیں؟“

دوسری حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی ہے جو مسجد کے اندر مجلس وعظ و تعلیم میں بیٹھنے والوں کو سلام کہنے کی سنت پر نہایت واضح دلیل ہے:

((عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسَ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَا..... الخ))^②

”ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دریں اثناء کہ رسول اللہ ﷺ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ تین آدمی آئے دو رسول اللہ ﷺ کی طرف آئے اور ایک چلا گیا جب وہ دونوں مجلس کے پاس پہنچ گئے تو دونوں نے سلام کیا۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے:

① صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي ذر، صحيح الأدب المفرد ۷۹۰۔

② موطا الإمام مالك ۳۵۸/۲ باب جامع السلام

”بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعُرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ“

[صحیح البخاری، کتاب العلم]

”محدث پر حدیث کا پیش کرنا اور پڑھنا“

ان نصوص سے روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر لوگوں کو سلام کہنا مشروع و مسنون ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے بلکہ مسلمان تو وہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم اور فیصلے کے بعد اس کے مخالف کسی کے فیصلے کو بھی نہ مانے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾

[محمد: ۳۳]

”اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ ﷺ کی بات مانو اپنے اعمال کو (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کر کے) برباد نہ کرو۔“

مسجد میں داخل ہونے والا پہلے سلام کرے یا تحیۃ المسجد پڑھے؟

فائدہ: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد [۲/۴۱۳، ۴۱۴] میں اور ان کی تقلید میں دوسرے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ پہلے تحیۃ المسجد پڑھے پھر اہل مسجد کو سلام کرے کیونکہ تحیۃ المسجد خالق کا حق ہے اور سلام مخلوق کا حق ہے لہذا اس موقع پر اللہ کا حق مقدم ہوگا۔ اور اس کی دلیل ”حدیث مسنی فی الصلاة“ پیش کی ہے کہ اس میں داخل ہونے والے نے اولاً نماز پڑھی پھر آن کر نبی ﷺ کو سلام کیا۔

لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ دیگر حدیثوں میں اس کے علاوہ صورتیں ثابت ہیں جیسا کہ موطا کے حوالے سے تین آدمیوں کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور مجلس میں آکر دونوں نے سلام کیا، اسی طرح بخاری و مسلم وغیرہ میں کعب بن مالک رضی اللہ

مسلم معاشرہ میں سلام ترک کیوں؟

کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو مسجد میں آ کر دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے لوگ آتے گئے پھر فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْضَبِ میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ قبولِ توبہ کے وقت آپ آئے اور نبی ﷺ جو مسجد میں تھے، کو سلام کیا^① مسجد قباء میں انصار آئے اور نبی ﷺ کو سلام کیا۔

لہذا حق یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والے کی ملاقات اگر لوگوں سے ہو جاتی ہے تو یہ ان کو سلام کرے گا اور اگر لوگوں سے سامنا نہ ہو اور لوگ ذرا ہٹ کے کسی کو نہ میں بیٹھے ہوں تو یہ اپنی نماز پڑھے پھر اگر ان سے ملنا چاہتا ہے تو جا کر انہیں سلام کر کے ملے۔
فائدہ:..... بعض لوگ جو مسجد میں آ کر لوگوں سے سامنا نہ ہونے کے باوجود بہت بلند آواز سے سلام کہتے ہیں جس سے بیقراری اور بے توجہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ درست نہیں طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے قریب جا کر (خواہ نماز میں ہوں یا نہ ہوں) معتدل آواز سے سلام کیا جائے جیسا کہ حدیث مسی الصلوۃ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ سے یہی بات ثابت ہے۔^①

کیا نمازی کو سلام کہنا مکروہ ہے؟

رد المحتار کے متن الدرر المختار میں ہے:

سَلَامُكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَمِعَ وَمِنْ بَعْدِ مَا أُبْدِيَ يَسْنُ وَيُشْرَعُ
مُصَلِّي وَتَالِ ذَاكِرٍ وَمُحَدِّثٍ خَطِيبٍ وَمَنْ يُصْغِي إِلَيْهِمْ وَيَسْمَعُ
مُكَرَّرٍ فَقِهِ جَالِسٍ لِقَضَائِهِ وَمَنْ بَحَثُوا فِي الْفَقْهِ دَعَاهُمْ لِيَنْفَعُوا
مُؤَدِّينَ أَوْ تَقِيمٍ مُدْرِسٍ كَذَا الْأَجَنِبِيَّاتِ الْفَتِيَّاتِ أَمْنَعُ
وَدَعُ أَكْبَلَا إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَائِعًا وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَمْنَعُ

① دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب المغازی باب حدیث کعب بن مالک ۴۱۸

وَقَدْ زِدْتُ عَلَيْهِ الْمُتَفَقَّةَ عَلَى أَسَاذِهِ كَمَا لِي الْقُنْيَةُ^②

”سلام کہنا مکروہ ہے ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ ابھی سنیں گے اور ان کے علاوہ لوگوں کو سلام کہنا مسنون و مشروع ہے: نمازی، تلاوت کرنے والا، ذاکر، محدث، جوان کو سنتا ہے، فقہ کا تکرار کرنے والا، فیصلے (قضاء) کے لیے بیٹھنے والا اور جو لوگ فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو (سلام نہ کہو) تاکہ فائدہ پہنچائیں (کیونکہ سلام کہنے سے وہ فقہ کا فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے) مؤذن، اقامت کہنے والا، مدرس کو بھی، اسی طرح جوان اجنبی عورتوں کو سلام کہنا اور زیادہ ممنوع ہے۔ کھانا کھانے والے کو، اگر تمہیں بھوک لگی ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ نہیں روکے گا تو پھر اس کا سلام کہنا جائز ہے مکروہ نہیں۔ (ورنہ مکروہ ہے) میں نے ان مذکورہ لوگوں پر اس کا بھی اضافہ کیا ہے کہ طالب علم اپنے استاذ کو سلام نہیں کہے گا جیسا کہ قنیہ میں ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی نے تصریح کی ہے کہ کراہت سے مراد تحریمی ہے:

((ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ))^③

یعنی مذکورہ لوگوں کا سلام کہنا مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے اور اس کا فاعل بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اب ہم ہر ایک کا جائزہ لیتے ہیں:

نمازی کو سلام کہنا مسنون ہے:

نمازی کو سلام کہنا بلاشبہ مسنون ہے اور اس پر دو قسم کے دلائل دال ہیں: دلائل عامہ اور دلائل خاصہ۔

دلائل عامہ:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

② مرجع مذکور۔

① رد المحتار علی الدر المختار ۱/۴۵۵، ۴۵۶

((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ،
أَوَّلَ أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ، أَفْشُوا السَّلَامَ
بَيْنَكُمْ))^①

”تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے، جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرو گے (وہ یہ ہے کہ) آپس میں سلام کو عام کرو۔“

یہ حدیث مطلق اور عام ہے اور قاعدہ ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر اور عام کو اپنے عموم پر چھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی مقید یا تخصّص ملے۔ اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی رو سے نمازی کو اس حکم سے خارج کر دیا جائے۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

((أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ / وَفِيهِ / وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ))^②

”ہمیں نبی ﷺ نے سات چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے: ان سات میں سے ایک یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔“

اسی طرح عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا
وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ))^③

”اے لوگو! سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز پڑھو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“

ان احادیث میں لفظ ”إفشاء“ آیا ہے اور اس کا معنی پھیلانا اور عام کرنا ہے، تو جو

① صحیح مسلم۔ کتاب الإیمان۔ باب بیان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون رقم الحديث: ۱۹۴۔

② متفق علیہ: صحیح البخاری کتاب الاستئذان باب افشاء السلام رقم الحديث: ۶۲۳۵۔

③ جامع الترمذی أبواب الزهد۔ باب حديث إفشاء السلام رقم الحديث: ۲۴۵۸۔

شخص مسجد میں اور نمازی، ذاکر، مدرس، قاری وغیرہ کو سلام نہیں کہتا، تو کیا وہ اس حکم نبی ﷺ کی مخالفت نہیں کرتا؟ حالانکہ اس کے پاس اس بارے میں کوئی بھی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا کہ وہ نبی ﷺ کی مخالفت کرے۔

اس سلسلے میں دلائل عامہ تو بکثرت ہیں ہم اسی پر اکتفاء کر کے اب دلائل خاصہ ذکر کرتے ہیں:

دلائل خاصہ

حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما:

یہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو داؤد نے اس کو اپنی سنن میں باب رد السلام فی الصلاة "نماز میں سلام کے جواب" اور امام ابن ماجہ نے باب المصلی یسلم علیہ کیف یرد "نمازی کو سلام کہا جائے تو کس طرح جواب دے گا؟" کے عنوان سے ذکر کیا ہے:

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ ، قَالَ: فَجَاءَهُ تَهْ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا ، وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ))^①

"انصار آئے اور انہوں نے آپ کو حالت نماز میں سلام کیا، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: جب انصار نبی ﷺ کو سلام کہہ رہے تھے تو آپ ﷺ نے حالت نماز میں سلام کا جواب کس طرح دیا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ اس طرح، اور اپنی ہتھیلی کو کھولا اور جعفر بن عون نے بھی اپنی ہتھیلی کو کھولا اور ہتھیلی کے پیٹ کو نیچے کی طرف کر کے اور پشت کو اوپر کی طرف کر کے (سلام کیا)۔"

اس حدیث میں ان لوگوں پر کتنا بلغ رد ہے، جو نمازی کو سلام کہنا مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں حالانکہ آپ ﷺ نے انصار صحابہ کرام کے اس فعل پر بالکل انکار نہیں کیا بلکہ ان کے سلام کا جواب اشارے سے دیا تو یہ اس پر واضح دلیل ہے کہ نمازی کو سلام کہنا مشروع و مسنون ہے، اور نمازی اس کا جواب اشارے سے دے گا اور صحابہ نے یہی سمجھا۔

حقیقت یہ ہے کہ نمازی کو سلام کہنا صحیح اور مضبوط دلائل سے ثابت ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ نمازی سلام کا جواب و علیکم السلام سے نہیں دے گا، اس لیے کہ و علیکم السلام سے جواب دینا کلام ہے اور نماز میں کلام کرنا ابتداء اسلام میں جائز تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُرَدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ؛ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا. وَقَالَ: ((إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا))^①

”ہم نبی ﷺ کو جب آپ نماز میں ہوتے، سلام کرتے تھے تو آپ ﷺ ہمیں جواب دیتے تھے جب ہم نجاشی کے ہاں سے آئے تو ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ ﷺ نے جواب نہیں دیا، اور فرمایا: ”نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور امام نووی نے اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے:

((بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ))^②

① صحیح البخاری۔ کتاب العمل فی الصلاة۔ باب ما ينهى عن الكلام فی الصلاة رقم الحديث: ۱۱۹۹
صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلوة باب تحريم الكلام فی الصلاة
رقم الحديث: ۱۲۰۱

② صحیح مسلم شرح النووی ۲۰/۵

”باب ہے: نماز میں کلام کے حرام ہو جانے اور اس کے جواز کے منسوخ ہو جانے کے بیان میں۔“

امام ابوداؤد نے اس حدیث کو ابو وائل کے طریق سے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ کامل طریقے سے روایت کیا ہے:

((كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَأْقَدَمٌ وَمَا حَدَّثَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ : ((إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَخَذَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَّدَ عَلَيَّ السَّلَامَ))^①

”ہم نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات کے بارے میں بھی کسی کو کہتے تھے، (لیکن) جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس (حبشہ سے) آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب (وعلیکم السلام سے) نہیں دیا، میں گزشتہ و موجودہ واقعات کے بارے میں سوچنے لگا، جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری کی، تو فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر کے بارے میں جیسے اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو، اور میرے سلام کا جواب دیا۔“

بعض حنفی حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ”فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا“ کے ساتھ جواب سلام کی نفی پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے

① سنن ابی داؤد کتاب الصلاة باب رد السلام فی الصلاة رقم الحديث ۹۲۴ و هو حسن صحيح قاله الألبانی

، وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کی مذکورہ روایت میں ”فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ“ ہے تو ”فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا“ سے مراد یہ ہے کہ سلام کا جواب زبان سے نہیں دیا جیسا کہ واضح ہے، اور طبرانی کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب اشارے سے دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

((مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ (فَرَدَّ إِشَارَةً))^۱

www.KitaboSunnat.com

”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے اشارے کے ساتھ جواب دیا۔“

جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث:

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: ((إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ أَنْفًا وَأَنَا أُصَلِّي))^۲

”مجھے نبی ﷺ نے کسی کام کے لیے بھیجا، پھر جب میں آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ ﷺ نے مجھے اشارہ کیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے، تو مجھے بلا کر فرمایا: ”آپ نے مجھے ابھی سلام کیا اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔“

صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث:

صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

- ① أخرجه الطبرانی في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح كما في المجموع ۸۲/۲۔
- ② صحيح: سنن ابن ماجه أبواب إقامة الصلوات باب المصلي يسلم عليه كيف يرد رقم الحديث ۱۰۱۸ ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة نحوه۔

((مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ إِشَارَةً ، قَالَ الرَّاَوِيُّ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ))^①

”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا، راوی کہتا ہے اور میں نہیں جانتا مگر یہ کہ اس نے کہا: نبی ﷺ نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔“

نافع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت:

نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں:

((إِنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِذَا سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ كُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ))^②

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اسے سلام کیا، اس نے ”وعلیکم السلام“ سے جواب دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس ہوئے اور اس سے کہا: جب نماز کی حالت میں تم میں سے کسی کو سلام کیا جائے تو وہ بات نہ کرے اور ہاتھ کے اشارے سے جواب دے۔“

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے:

((أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ،

① سنن أبی داؤد۔ کتاب الصلاۃ۔ باب رد السلام فی الصلاۃ رقم الحدیث ۹۲۵ وہو

حدیث صحیح انظر صحیح أبی داؤد ۸۱۸ وصحیح ابن ماجہ ۸۳۲۔

② موطا الإمام مالک۔ کتاب قصر الصلاۃ فی السفر۔ باب العمل فی جامع الصلاۃ ۱۰۸/۱۔

مصنف ابن ابی شیبہ ۷۴/۲۔

فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ بِإِشَارَةٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّا كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فَنَهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ))^①

”ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو حالت نماز میں سلام کیا، تو نبی ﷺ نے اشارے کے ساتھ جواب دیا، جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی سے فرمایا: ہم (اس سے پہلے) نماز میں سلام کے جواب میں ”وعلیکم السلام“ کہتے تھے، پھر ہم اس سے منع کئے گئے۔“

حدیث کے اندر جس آدمی کا ذکر ہے یہ خود عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ نماز میں سلام کا جواب ”وعلیکم السلام“ سے دینا منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلام کا جواب اشارہ سے دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے نمازی کو سلام کہنے کا مسنون ہونا ثابت ہوا ہے؛ اس لیے کہ نبی ﷺ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فعل کی تقریر و تثبیت فرمائی ہے اور انکار نہیں کیا ہے بلکہ اشارہ سے جواب دے کر اس عمل کی مشروعیت کو ظاہر فرمایا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے نماز کے دوران دیگر سلام کہنے والوں کی بھی تقریر و تثبیت فرمائی ہے اور کسی پر انکار نہیں کیا ہے۔

احناف نے نمازی کو سلام کہنا تو مکروہ لکھا ہی ہے، اسی طرح نمازی کا اشارہ کے ساتھ جواب دینا بھی ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری (۱۰۶/۱) میں ہے:

((وَيُكْرَهُ رَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ))

”نمازی کا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔“

رد المحتار کے متن الدر المختار میں ہے:

① أخرجه البزار بإسناد حسن كفاي المجمع ۸۱/۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم

الحديث ۲۹۱۷۔

((وَرَدُّ السَّلَامِ وَلَوْ سَهْوًا بِلِسَانِهِ مُفْسِدٌ لَا يَبِيدُهُ بَلْ يُكْرَهُ عَلَى الْمُعْتَمِدِ))^①

”زبان سے سلام کا جواب دینا اگرچہ سہوا ہو، مفسد نماز ہے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا بناء بر قول معتد مکروہ ہے۔“

کنز شریف کی مکروہات میں تحریر ہے:

((وَرَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: أَيْ بِالْإِشَارَةِ))^②

”نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔“

اور یہ قاعدہ احناف کے ہاں مشہور و معروف ہے کہ کراہت مطلقاً ذکر ہو تو اس

سے مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے جو کہ قریب بحرام ہوتی ہے دیکھیے: البحر الرائق۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا: التحريم یعنی حرام۔^③ اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں: امام محمد بن الحسن رحمہ اللہ سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ مکروہ کو حرام سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کہتے ہیں:

((هُوَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ))^④

”مکروہ حرام کے قریب تر ہے۔“

شیخ احمد سرہندی حنفی معروف بہ مجدد الف ثانی لکھتے ہیں:

”پس مکروہ ہے کہ مقابل مباح است مکروہ تحریمی است“ (مکتوبات، مکتوب

[۹] دفتر اول طبع لاہور)

”پس جو مکروہ مباح کے مقابل ہوتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔“

حضرات احناف نے اپنے اس قول کے لیے ایک ضعیف حدیث سے استدلال

① البحر الرائق ۲/۲۳۔

② رد المحتار ۱/۴۵۰۔

③ ہدایہ ۴/۱۸۵۔

④ هامش الہدایہ ۴/۱۷۲۔

کیا ہے۔ ابن الہمام نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر (۱/۴۰۶) میں نماز کی مفسدات و مکروہات کے تحت لکھا ہے:

((مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ))

”جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا جو مفہوم اور سمجھا جاتا ہو تو تحقیق اس نے نماز توڑ ڈالی ہے۔“

یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی ذکر ہے:

((مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعِدْ لَهَا)) يَعْنِي الصَّلَاةَ. ❶

”جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا جس سے فہم حاصل ہوتا ہو تو وہ اپنی نماز کو لوٹائے۔“

ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا:

((هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ)) ”یہ وہم ہے۔“

دارقطنی کہتے ہیں: کہ ہمیں ابن ابی داؤد نے کہا ابو غطفان (سند میں ایک راوی) مجہول ہے وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَالصَّحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ أَنَسُ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الدار قطنی: رواه ابن عمر وعائشة أيضا .

اور شاید یہ ابن اسحاق کا اپنا قول ہے اور صحیح یہ ہے کہ نبی ﷺ نماز میں اشارہ کرتے تھے جسے انس، جابر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں: ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایات ثابت ہیں۔

شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

❶ سنن أبی داؤد۔ کتاب الصلاة۔ باب الإشارة فی الصلاة۔ رقم الحديث ۹۴۴ ورواه الطحاوی و الدار قطنی وعنه البيهقی.

((وَأِنَّمَا عَلَّةُ الْحَدِيثِ ابْنُ اسْحَاقَ وَهُوَ مُذَلِّسٌ وَقَدْ غَنَعَنَاهُ))

”حدیث کی علت ابن اسحاق ہے وہ مدلس ہے اور اس نے عنف کیا ہے

(اور ایسی زیادت لائے ہیں جو احادیث صحیحہ کے خلاف ہے)“

اور نصب الراية (۹۰/۲) میں زیلعی کا یہ قول تو غرائب میں سے ہے کہ اس نے اس حدیث کو ”جید“ کہا ہے باوجودیکہ اس نے ابن الجوزی سے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے ”التحقیق“ میں اس حدیث کو اس علت سے معلول قرار دیا ہے اور اس علت کو بھی ذکر کیا ہے جو پہلے گزری (راوی سند ابو غطفان مجہول ہے) پھر اس نے خود ذکر کیا ہے کہ صاحب ”التحقیق“ نے پہلی علت کے بارے میں ابن الجوزی کا تعاقب کیا ہے جب کہ دوسری علت (ابن اسحاق کا مدلس ہونا اور عن کے ساتھ روایت کرنا) کے بارے میں کوئی تعاقب نہیں کیا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

((لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ))

”اس حدیث کی سند ثابت نہیں اور یہ بیچ ہے۔“

اور اس طرح زیلعی نے تسلیم کیا اور کوئی تعاقب نہیں کیا اور تعاقب کرنے کا مجال ہی نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے اس سے استدلال بھی کیا جب مذہب حنفی کے مطابق ہدایہ میں یہ مسئلہ آیا:

((وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنَى حَتَّى لَوْ

صَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ))

”اور سلام کا جواب نہ زبان سے دیا جائے گا نہ ہاتھ کے اشارے سے اس

لیے کہ ہاتھ کے اشارے سے کلام کا جواب دینا معنی کلام ہے، یہاں تک

کہ اگر اس نے سلام کرنے کی نیت سے مصافحہ کیا تو اس کی نماز باطل ہو

گئی۔“

باوجودیکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں، ان کا یہ قول نبی ﷺ سے ثابت اور صحیح احادیث کے بھی مخالف ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ نماز میں اشارہ کرتے تھے اور سلام کا جواب اشارہ سے دیتے تھے، تو یہ (متدل احناف) حدیث منکر ہے۔ ابن ابی داؤد کے کلام میں اس کی طرف اشارہ ہے اور اسی لیے عبدالحق الأشعری نے اپنی کتاب ”الأحكام“ میں اس کے بعد لکھا ہے:

((وَالصَّحِيحُ إِنَّا حَقُّ الْإِشَارَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ))
 ”اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ کرنا جائز ہے بناء بروایت مسلم وغیرہ کے۔“

انتہی کلام الألبانی رحمہ اللہ^①

نبی ﷺ سے دوران نماز ہاتھ کے اشارے سے کلام کا جواب دینا متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے، چند احادیث پہلے ذکر کی جا چکی ہیں جو کہ ایک منصف شخص کے لیے کافی ہیں چند مزید دلائل درج ذیل ہیں:

امام ابو داؤد نے اپنی سنن^② میں عبد الرزاق نے اپنی مصنف^③ میں اور امام بیہقی نے اپنی سنن^④ میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ)).

”بے شک نبی ﷺ نماز میں اشارہ کیا کرتے تھے۔“

امام بخاری و امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے دوران نماز اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی کو اشارہ کیا:

((فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ))^⑤

① سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ١١٠٤/١

② صحيح: سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة ٩٤٣

③ مصنف عبد الرزاق ٢٠٨/٢ - رقم ٣٢٧٦

④ السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٢/٢

⑤ صحيح مسلم ٢٧٧/١، صحيح البخاري - كتاب السهو - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار

”نبی کریم ﷺ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔“
 شیخ البانی رحمہ اللہ نے ”سلسلہ صحیحہ“ میں صحیح ابن خزمہ اور ”مسند ابی یعلیٰ“ کے
 حوالے سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ذکر کی ہے:

((كَانَ يُصَلِّيُ فَإِذَا سَجَدَ، وَتَبَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى
 ظَهْرِهِ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا؛ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا فَلَمَّا
 قَضَى الصَّلَاةَ؛ وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّنِي؛
 فَلْيَحِبِّ هَذَيْنِ))^①

”آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدہ کرتے تو حسن اور حسین
 چھلانگ لگا کر آپ ﷺ کی پشت پر چڑھ جاتے، جب لوگ ان کو منع
 کرنا چاہتے تو نبی ﷺ لوگوں کو اشارہ سے فرماتے کہ ان کو چھوڑ دو، جب
 آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دونوں کو اپنی گود میں
 بٹھایا اور فرمایا: ”جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے محبت کرے۔“
 عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے نماز میں ایک عورت
 کو، جس نے آپ کو ہدیہ پیش کیا تھا، اشارے سے کہا کہ اسے رکھو:

((عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ دِينَارٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أُرْسَلَتْهَا
 بِهَرِيرِيسَةَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّيُ فَأَشَارَتْ إِلَيَّ
 أَنْ ضَعِيْهَا))^②

اس کے علاوہ عبدالرزاق میں ”باب الإشارة فی الصلاة“ کے تحت بہت سے
 آثار ذکر کئے گئے ہیں۔ ایک منصف اور متبع شریعت مسلمان کے لیے یہ دلائل کافی دوانی
 ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر انصاف کے ساتھ ان دلائل میں غور کرے گا تو اسے حق ضرور ظاہر

① سلسلۃ الأحادیث الصحیحة رقم الحدیث ۳۱۲ / ۱ - ۶۲۲۔

② صحیح: سنن أبی داؤد: کتاب الطہارۃ، رقم الحدیث ۷۵ مشکاة المصابیح ۵۱/۱ باب
 أحکام المیاء۔

ہو جائے گا۔ (ان شاء اللہ)

ہم یہاں پھر احناف کے متادل حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہیں: جیسا کہ ثابت ہوا کہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ احناف اگرچہ اس کو دلیل بناتے ہیں لیکن خود ان کا عمل اس حدیث پر نہیں ہے اس لیے کہ اس (ضعیف) حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس نے نماز میں اشارہ مفہومہ کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی اور وہ نماز کو لوٹائے، لیکن احناف کا عمل اس کے خلاف ہے یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس حدیث کو دلیل بنایا خود اس پر عمل پیرا نہیں ہیں؛ یہی وجہ ہے کہ امام ابن الہمام حنفی، علامہ حلبی حنفی اور ابن نجیم مصری حنفی رحمہم اللہ کو دلائل مذہب کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں احادیث صحیحہ کے ثبوت و وجود کے پیش نظر سپر انداز ہونا پڑا اور نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کے جواب دینے کے جواز کے قائل ہوئے۔ والحمد للہ

((ذَكَرَ ابْنُ النُّجَيْمِ نَقْلًا عَنِ الْعَلَامَةِ الْحَلَبِيِّ : وَفَعَلَهُ عَلَيْهِ [الصَّلَاةُ] السَّلَامُ لَهَا إِنَّمَا كَانَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ فَلَا يُوصَفُ بِالْكَرَاهَةِ))^①

”اور نبی ﷺ کا نماز میں سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا تعلیم جواز کے لیے تھا اس لیے اس فعل کو مکروہ نہیں کہا جائے گا۔“

((قَالَ ابْنُ الْهَمَّامِ: وَلَمَّا أَنْ لَا نَقُولَ بِهِ فَإِنَّ مَا فِي الْغَايَةِ عَنِ الْحُلُوتَانِي وَصَاحِبِ الْمُحِيطِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَ الْمُصَلِّي وَيُجِيبُ هُوَ بِرَأْسِهِ، يُفِيدُ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ))^②

”اور ہمیں چاہیے کہ نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کے جواب کو مکروہ

① البحر الرائق ۹/۲۔

② فتح القدیر ۴۲۴/۱، ۴۲۳۔

نہ کہیں اس لیے کہ حلوانی اور صاحب محیط سے ”الغایۃ“ میں یہ روایت آئی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی سے بات کی جائے اور وہ سر کے اشارے سے جواب دے، اس سے عدم کراہت ثابت ہوتی ہے۔“

تلاوت کرنے والے کو سلام:

احناف کے ہاں تلاوت کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے، خواہ تلاوت کرنے والا ایک ہو اور باقی سننے والے یا بعض تلاوت کرنے والے اور بعض سننے والے، بہر صورت تلاوت کے دوران سلام کہنا ممنوع ہے۔

سَلَامْتُ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَمِعَ وَمِنْ بَعْدِ مَا أَبْدَى يَسُنُّ وَيُسْرَعُ مُصَلِّيٌ وَتَالٍ، ذَاكِرٌ وَمُعَدِّتٌ خَطِيبٌ وَمَنْ يُصَغِّي إِلَيْهِمْ وَيَسْمَعُ^۱ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو سلام کہنا بلاشبہ مشروع ہے اور اس پر دو قسم کے دلائل موجود ہیں ① دلائل عامہ جو نمازی کو سلام کی مشروعیت کی بحث میں ذکر کئے جا چکے ہیں ② دلائل خاصہ اور یہ بھی نمازی کو دوران نماز سلام کہنے کی مشروعیت کی بحث میں گزر چکے ہیں اس لیے کہ جب نمازی کو سلام کہنا ثابت ہے حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کو بطریق اولیٰ سلام کہنا درست ہے جو نماز میں نہیں ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارہ میں نہایت صریح اور صحیح حدیث عقبہ بن عامر الجعفی کی ہے: وہ بیان کرتے ہیں: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ. [السنن الكبرى للنسائي ۱۹، ۱۸/۵ کتاب فضائل القرآن] ہم مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آئے اور ہمیں سلام کیا، ہم نے آپ کو سلام کا جواب دیا اور اس وجہ سے بھی تلاوت کرنے والے کو سلام کہنا مشروع ہے کہ اسے سلام کہنے سے منع نہیں آیا ہے لہذا یہ دلائل عامہ کے عموم کے تحت ہے۔

ذکر کرنے والے کو سلام کہنا:

احناف کے نزدیک ذکر کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے، یہ ذکر جس قسم کا اور جس طریقہ سے بھی ہو۔ علامہ شامی کہتے ہیں:

((فَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى مُشْتَغِلٍ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَيِّ وَجْهِ

كَانَ [رَحِمَتِي]))^①

”اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول شخص کو سلام کہنا مکروہ ہے ذکر خواہ جس طرح بھی ہو۔“

لیکن ذکر کرنے والے کو سلام کہنا بلاشبہ مشروع و مسنون ہے اور اس کے دلائل یہ ہیں: دلائل عامہ جو نمازی کو سلام کہنے کے بحث میں گزر چکے ہیں۔ دلائل خاصہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو نمازی کو سلام کے بارے میں وارد ہیں اسی لیے کہ نماز بھی ذکر ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ))^②

”نماز تو بس تسبیح، تکبیر اور قرآن کا پڑھنا ہے“

اس سے ثابت ہوا کہ نماز ذکر اور نمازی بھی ذکر ہے تو جب نمازی کو سلام کہنا مشروع ہے تو ذکر کو بطریق اولیٰ جائز ہے۔

دیگر دلائل خاصہ:

دیگر دلائل خاصہ یہ ہیں: نبی کریم ﷺ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے:

((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ))^③

① رد المحتار ۴۵۶/۱۔

② مسلم ۳۸۱/۱ کتاب المساجد۔ باب تحریم الکلام فی الصلاة حدیث ۵۳۷۳۔

③ صحیح مسلم۔ کتاب الحيض۔ باب ذکر الله فی حال الحنابة وغیرها ۱۶۰/۱۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے سو دفعہ نبی ﷺ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم شمار کر لیتے:

((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ))^①

اور صحابہ کرام ان حالات میں بھی آپ کو سلام کرتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ ذکر کرنے والوں کو سلام کہنا مسنون و مشروع ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾

[آل عمران / ۱۹۱]

”عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔“

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب / ۳۵]

”اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔“

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا

اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب / ۲۱]

”یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں عمدہ نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے ذکر کا حکم اور ترغیب بھی دی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

[الأحزاب / ۴۱، ۴۲]

وَأَصِيلًا﴾

① صحیح: صحیح الترمذی۔ رقم الحديث ۳۴۳۴، ۱۵۳/۳، صحیح ابن ماجہ ۳۲۱/۲۔

”اے ایمان والو! اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو“

((لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ))^①

”تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے“

اس کے علاوہ بہت سی آیات و احادیث اس معنی پر دال ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذکر کی عام ترغیب کے علاوہ دیگر اوقات و مواضع کے لیے بھی دعائیں اور اذکار متعین فرمائے ہیں:

رات کے وقت کروٹ بدلنے کی دعا، تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت کی دعا، نیند سے اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور اس سے نکلنے کی دعا، وضوء سے پہلے اور وضوء کے بعد کی دعا، نمازوں کے بعد اذکار و ادعیہ، مجلس سے اٹھنے اور مجلس کے اندر پڑھنے کی دعا، کھانا شروع کرنے اور اس سے فارغ ہو کر پڑھنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا، دوران اذان اور بعد اذان دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں، فکر مندی، غم، تکلیف، اور مصیبت کے وقت کی دعائیں، دشمن اور صاحب سلطنت سے ملنے کے وقت کی دعائیں، بادشاہ کے ظلم سے خوف کی دعائیں، لوگوں سے ڈرنے کی دعا، ایمان میں شک ہو جانے کے وقت کی دعا، ادائیگی قرض، مشکل وقت، گناہ کر بیٹھنے کے بعد کی دعائیں، شیطان اور اس کے وسوسوں کو دور کرنے کی دعا، ناپسندیدہ واقعہ پیش آنے، یا بے بس ہونے کے وقت کی دعا، تعزیت، آندھی، بادل گر جے، بارش طلب کرنے، بارش اترنے کے وقت اور اس کے بعد اور مطلع صاف ہو جانے کی دعائیں، چاند دیکھنے کی دعا، روزہ افطار کرنے کی دعا، مہمان کی میزبان کو دعا، پلانے والے کے لیے دعا، دعوت کے وقت روزہ نہ توڑنے والے کی دعا، شادی کرنے اور سواری خریدنے کی دعا، بیوی کے پاس جانے کی دعا، غصہ آجانے کے وقت کی دعا، مصیبت زدہ کی دعا، پہلا پھل دیکھنے کی دعا، چھینک کی دعا، اچھا سلوک کرنے

① صحیح: سنن الترمذی۔ أبواب الدعوات۔ باب فضل الذكر رقم الحديث ۳۳۷۵۔

والے کے لیے دعا، دجال سے محفوظ رہنے، شرک سے خوف کی دعا، برکت کی دعا، سواری پھسلنے کے وقت کی دعا، مسافر کی مقیم کے لیے دعا اور بالعکس، دوران سفر تسبیح و تکبیر اور صبح کے وقت کی دعا، سفر سے واپسی کی دعا، خوشخبری یا پریشانی کی بات سننے کے وقت، مرغ بولنے، گدھا بیلگنے اور ات کوکتوں کے بھونکنے کے وقت کی دعائیں، حج میں ثابت شدہ دعائیں پڑھنا، خوشی محسوس کرنے اور خوش کن کام پر تکبیر کہنا، گھبراہٹ کے وقت کی دعا، جسم میں تکلیف، اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کی دعا، اور سرکش شیطانوں کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا۔

یہ سب اذکار اور دعائیں نبی کریم ﷺ سے ثابت ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر مواضع و مواقع پر آپ ﷺ نے دعا و ذکر کی ترغیب دی ہے اور شریعت میں ذکر و دعا کی عام ترغیب اور تعلیم ہے اور الحمد للہ مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں۔

اگر احناف کے مذکورہ اصول کو مان کر اس پر عمل کیا جائے تو اس کا واضح مطلب اور براہ راست نتیجہ یہی نکلے گا کہ سلام مسلمانوں کے معاشرہ سے نکل جائے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

((وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَعْمُ فَيَكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى مُشْتَغِلٍ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ))^①

”اور ظاہر ہے کہ ذکر عام ہے تو جس طرح بھی ایک شخص اللہ کے ذکر میں لگا ہے اور ذکر جس قسم کا بھی ہے ایسے شخص کو سلام کہنا مکروہ ہے۔“

ایک اور دلیل یہ ہے کہ سلام کہنا خود ذکر ہے اس لیے کہ ”السلام“ اللہ تعالیٰ کا نام ہے:

﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر/ ۲۳]

((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ))^②

”بے شک اللہ تعالیٰ ہی (السلام) ہے۔“

① رد المحتار ۱/ ۴۶

② صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب السلام اسم من اسم الله تعالى ۶۲۳۰

اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))^①

”السلام“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں رکھا ہے پس تم آپس میں سلام کو عام کرو۔“

ثابت ہوا کہ ”السلام“ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اسے عام کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ذکر ہے اور یہ بات حضرات احناف کو بھی تسلیم ہے ہدایہ میں ہے:

((لَأَنَّهُ مِنَ الْأَذْكَارِ))

”اس لیے کہ سلام اذکار میں سے ہے۔“

شارح ہدایہ اس کے تحت لکھتا ہے:

((إِذِ الْمُتَشَهَّدُ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى))^②

”کیونکہ تشهد پڑھنے والا نبی ﷺ پر سلام کہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔“

مولانا مفتی محمد شفیع حنفی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے (۲) تذکیر بھی (۳) اپنے مسلمان بھائی سے اظہار تعلق و محبت بھی (۴) اس کے لیے بہترین دعا بھی (۵) اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔^③

جب خود احناف نے یہ تسلیم کیا کہ سلام ذکر ہے بلکہ یہ بھی مان لیا کہ یہ دعا بھی ہے،

① سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث: ۱۸۴/۱

② فتح القدیر ۴۰۶/۱ دار الباز

③ معارف القرآن ۵۰۲/۲

مسلم معاشرہ میں سلام متروک کیوں؟

پس اگر ایک مسلمان ذکر میں مصروف ہے تو کیا دوسرا مسلمان ذکر سے روکا گیا ہے؟ اگر سلام کی بجائے آنے والا شخص ذکر کے پاس کوئی دوسرا ذکر شروع کرے تو کیا وہ بھی ناجائز ہوگا؟ ظاہر ہے کہ احناف اسے ناجائز نہیں کہتے تو سلام کیونکر ناجائز ہے؟ حالانکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَا حَسَدَتْكُمْ إِلَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَّا حَسَدُوكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالْتَأَمِينَ))^①

”یہودی تم سے کسی بھی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ (یعنی تم سلام اور آمین کہتے ہو تو ان کو چڑھتی ہے)۔“

احناف نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے، مدرس کو سلام کہنا مکروہ ہے، فقہ کا مطالعہ کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ ان سے عرض ہے کہ ان کے ساتھ بات بھی مکروہ ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص آکر ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کے ہاں ان کے ساتھ بات کرنا کیسا ہے؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں تو بات کرنے کو مکروہ نہیں لکھا ہے۔ اگر تمہارے ہاں بات کرنا جائز ہے اور سلام کہنا مکروہ، تو سوال یہ ہے کہ سلام کیوں مکروہ ہے اور بات کرنا کیوں جائز؟ کیا سلام عام باتوں سے بھی زیادہ گہرا ہے؟ اور کیا اللہ کا نام لینا جرم ہے؟ اور عام بات کرنا درست؟ ﴿تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ [النجم: ۲۲]

رسول کریم ﷺ کی تعلیم تو یہ ہے کہ ملاقات کے وقت بات کرنے سے پہلے سلام ضرور کہیں اور جو شخص بات کرنے سے پہلے سلام نہ کہے تو اس کی بات کا جواب بھی نہ دو:

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَمَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ))^②

”اور جو شخص سلام کرنے سے پہلے بات شروع کرے تو اسے جواب نہ دو۔“

① الادب المفرد رقم الحديث ۹۸۸ ابن ماجہ ۸۵۶ صحيح ابن خزيمة ۸۷۴، سلسلة الاحاديث الصحيحة ۶۹۱، ۶۹۲۔

② سلسلة الأحاديث الصحيحة ۴۷۷/۲ رقم الحديث ۸۱۶، ۸۱۷ زاد المعاد ۱/۴۱۵

اور فرمایا:

((لَا تَأْذُنُوا الْمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ))^①

”جو پہلے سلام نہ کہے تو اسے آنے کی اجازت نہ دو۔“

رسول کریم ﷺ کا حکم تو یہ ہے کہ مسلمان کسی مجلس میں جائے تو پہلے سلام کرے

اور جب اس مجلس سے جانا چاہے تو سلام کر کے جائے:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ

يَقُومَ فَلْيَسِتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ))^②

”جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جب جانے کا

ارادہ کرے تو سلام کرے؛ اس لیے کہ بارِ اول بارِ آخر سے زیادہ حق دار

نہیں ہے۔“

اسی طرح معاویہ بن قرہ کی حدیث میں ہے، مجھے میرے والد نے کہا:

((يَا بَنِيَّ! إِنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُو خَيْرَهُ، فَعَجَلْتَ بِكَ

حَاجَةً، فَقُلْ: ”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“؛ فَإِنَّكَ تُشِيرُ لَهُمْ فِيْمَا أَصَابُوا فِي

ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ لَمْ

يَذْكُرُوا اللَّهَ؛ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ حَبِيفَةٍ حِمَارٍ))

”اے بیٹے! جب آپ کسی ایسی مجلس میں ہوں جس کی خیر کی آپ کو امید

ہو (یعنی مجلس خیر ہو جو علم، ذکر اور قرآن و سنت و دیگر امور خیر کی مجلس ہوتی

ہے) اور آپ کو کوئی حاجت پیش آئے تو کہو: ”سلام علیکم“ پس آپ شریک

ہو جائیں گے اس ثواب و خیر میں جو ان کو حاصل ہوگا اور جو لوگ ایک جگہ

مجلس میں بیٹھے ہوں اور پھر اس حال میں جدا ہو جائیں کہ انہوں نے اس

① سلسلۃ الأحادیث الصحیحة ۴۷۷/۲ رقم الحدیث ۸۱۶، ۸۱۷ زاد المعاد ۱/۱۵۰

② سلسلۃ الأحادیث الصحیحة ۴۷۷/۲ رقم الحدیث ۸۱۶، ۸۱۷ زاد المعاد ۱/۱۵۰

میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ یہ لوگ گدھے کی لاش سے اٹھ کر جدا ہوئے۔“

شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ))
 ”اس کی سند صحیح ہے اور راوی سب ثقہ ہیں اگرچہ موقوف ہے لیکن بحکم مرفوع ہے اس لیے کہ رائے سے ایسی بات نہیں کہی جاتی۔“

ان احادیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ مجلس میں آتے جاتے وقت سلام کیا جائے اور حدیث ثانی میں تو تصریح ہے کہ مجالس خیر (علم و ذکر، تعلیم و تعلم وغیرہ) سے جاتے وقت سلام کیا جائے۔

اب حدیث کی رو سے مسلمان کی ہر مجلس ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے اور الحمد للہ مسلمان اس کو مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب خیر اور ذکر کی مجلس میں سلام کہنا مکروہ ہے تو کیا شر اور فسق کی مجلس میں سلام کہا جائے؟ بعض فقہاء نے مجالس فسق کو سلام کہنا مکروہ لکھا ہے:

((وَلَعَابُ شَطْرَنْجٍ وَشَبَّةٌ بِخُلُقِهِمْ قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْمَرَادُ مَنْ يُشَابِهُهُمْ فِي فِسْقِهِمْ مِنْ سَائِرِ أَرْبَابِ الْمَعَاصِي كَمَنْ يَلْعَبُ بِالْقِمَارِ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَغْتَابُ النَّاسَ أَوْ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ أَوْ يُغْنِي..... يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْفَاسِقِ وَلَوْ مُعْلَنًا وَلَا لَا))^①

”شطرنج کھیلنے والوں کو اور جو ان جیسے ہوں ان کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ ابن عابدین کہتے ہیں: ان کے ساتھ مشابہ ہونے سے مراد ان کے ساتھ فسق میں مشابہ ہونا ہے جیسے ارباب معاصی جیسے جو اکیلے والے، شراب پینے

والے، غیبت کرنے والے، کبوتر اڑانے والے، گانا گانے والے اور فاسق
معلن ان کو سلام کہنا مکروہ ہے۔“

اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ کے نزدیک مجالس خیر (ذکر، تعلیم و تعلم، قضاء و افتاء) والوں کو سلام کہنا مکروہ ہے اور مجالس شر اور فسق والوں کو بھی۔ تو اب سلام کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ جب سلام ہر قسم کی مجلس والوں کو ممنوع ٹھہرا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سلام مسلمانوں کے معاشرہ سے کوچ کر جائے گا۔ (یاد رہے کہ اہل فسق کو سلام کہنے کے بارے میں ہماری تحقیق بعد میں آرہی ہے)۔

مؤذن کو سلام کہنا:

فقہ حنفی میں ہے کہ مؤذن اور اقامت کہنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے اسی طرح اس کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ اور بعد میں جواب دینا واجب نہیں۔

((وَيُكْرَهُ رَدُّ السَّلَامِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ بَعْدَهُ

عَلَى الْأَصَحِّ))^①

لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ان کے مدعا پر دلالت کرے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مؤذن کو سلام کہنا مشروع و مسنون ہے اور اس پر وہ دلائل عامہ و خاصہ دلالت کرتے ہیں جو نمازی، قاری اور ذاکر کو سلام کہنے کے مباحث میں گزر رہے ہیں۔ جب نمازی، قاری اور ذاکر کو سلام کہنا ثابت ہے تو مؤذن بھی ذاکر ہی ہے تو اسے بھی سلام کہنا ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام کے بارے میں آمدہ دلائل عامہ سے مؤذن کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے لہذا وہ بھی دلائل عامہ کا مصداق و مدلول ہے لہذا اسے سلام کہنا مشروع ہے۔ علاوہ ازیں اذان میں کلام کرنا جائز ہے تو سلام کا جواب بطریق اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

مصنف ابن ابی شیبہ (۲۱۲/۱) میں ہے:

((عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعُسْكَرِ وَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ))

”سلیمان بن صرد صحابی رضی اللہ عنہ لشکر میں اذان دیا کرتے تھے اور دورانِ اذان اپنے غلام کو کسی کام کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔“

((وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلامِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بَأْسًا وَكَانَ عَطَاءٌ وَقْتَادَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْأَذَانِ))

”حسن بصری سے روایت کی گئی ہے کہ وہ اذان اور اقامت میں کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اور عطاء، قتادہ اور عروہ بن زبیر اذان میں باتیں کرتے تھے۔“

اس طرح کی روایات مصنف عبدالرزاق (۱/۴۶۸) میں بھی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے:

((بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يَقِيمُ))

”باب ہے اذان میں باتیں کرنے کے بارے میں۔ سلیمان بن صرد نے اذان میں کلام کیا ہے اور حسن نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر اذان اور اقامت کے دوران ہنس پڑے۔“

پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے مسند حدیث ذکر کی:

((خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَزَغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ)) ①

① صحیح البخاری : کتاب الأذان ، باب الكلام فی الأذان رقم الحدیث ۶۱۶

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ کچڑ والے دن میں خطبہ جمعہ دیا جب مؤذن حی علی الصلاة پر پہنچا تو اسے حکم دیا کہ کہو: ”نماز گھروں میں پڑھو لوگوں نے ایک دوسرے کو حیرت و تعجب سے دیکھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ ان کا عمل ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ) جو اس (ابن عباس رضی اللہ عنہما) سے بہتر ہے اور یہ عزیمت ہے۔“

علامہ عینی حنفی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

((قَالَ التَّيْمِيُّ: رَخَّصَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ جَمَاعَةٌ مُسْتَدَلِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْجَوَارِ مُطْلَقًا عَنْ عُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَنِ النَّحْضِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ الْكَرَاهَةَ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ الْمَنْعَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ خِلَافَ الْأَوَّلَى وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ))^①

”تیمی نے کہا: ایک جماعت نے اذان کہتے ہوئے باتیں کرنے کی اجازت دی ہے اور اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے ان میں سے احمد بن حنبل ہے اور ابن منذر نے مطلقاً جواز کا قول عروہ، عطاء، حسن اور قتادہ سے نقل کیا ہے، نخعی اور ابن سیرین سے کراہت منقول ہے سفیان ثوری سے ممانعت اور ابو حنیفہ اور صاحبین سے خلاف اولی ہونا (جائز ہے بہتر نہیں) منقول ہے، شافعی اور مالک کا کلام بھی اس پر دال ہے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ حنفیہ کو بھی تسلیم ہے کہ کلام یسر سے اذان میں کوئی فرق نہیں پڑتا: ((وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَسِيرٍ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا سِتْقَالٌ))^②

① عمدة القاری ۱۲۸/۳

② عالمگیری ۵۵/۱ خانہ علی ہامش الہندیہ ۵۷/۱

”مؤذن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اذان اور اقامت میں باتیں کرے اور اگر اس نے مختصر بات کی تو اذان دوبارہ لوٹانا لازم نہیں۔“

اور علامہ عینی کی عبارت میں گزرا ہے کہ احناف کے ائمہ ثلاثہ اذان میں باتیں کرنے کے جواز کے قائل ہیں صرف بہتر نہیں مانتے۔

اب اس معمر کو کون حل کرے گا کہ عام باتیں کرنا تو مؤذن کے لیے جائز ہو اور کسی کے سلام کا جواب دینا مکروہ و ممنوع؟ حالانکہ سلام اور جواب سلام شرعاً مایہ موربہ ہیں اور اس سے ثواب متعلق ہے حالانکہ باتیں کرنا نہ شرعاً مایہ موربہ ہے اور نہ ہی اس سے ثواب متعلق ہے۔

کھانا کھانے والے کو سلام کہنا:
فقہ حنفی میں ہے کہ کھانے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے پھر اس کے بارے میں ان کے ہاں عجیب تفصیلات ہیں۔

عالمگیری میں ہے:

((مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَأْكُلُونَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَعَرَفَ أَنَّهُمْ

يَدْعُوهُ سَلَّمَ وَإِلَّا فَلَا كَذَابٌ فِي الْوَجِيزِ لِلْكُرْدِ رِيٌّ))^①

”کسی کا ایسے لوگوں پر گزر ہو جو کھانا کھا رہے ہوں اگر اسے کھانے کی حاجت ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بلا لیں گے تو سلام کرے اور اگر اسے حاجت نہیں یا حاجت ہے لیکن اس کا خیال ہے کہ سلام کہنے کے باوجود یہ لوگ اسے کھانے کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر سلام نہ کرے۔ اسی طرح وجیز کروری میں ہے۔“ الدر المختار میں ہے:

((وَدُعُ أَكْلًا إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَائِعًا وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَمْنَعُ))^②

”اور کھانا کھانے والے کو چھوڑ دو (اسے سلام نہ کرو) مگر یہ کہ تم بھوکے ہو اور

تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ تجھے کھانے سے نہیں روکے گا تو پھر سلام کہہ سکتے ہو۔“

بعض نے کہا کہ کھانے والے کو اس صورت میں سلام کہنا مکروہ ہے جب لقمہ منہ میں ہو؛ نگل رہا ہو یا چبا رہا ہو۔ ابن عابدین لکھتا ہے:

((كَأَكَلٍ؛ ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِحَالٍ وَضَعِ اللَّقْمَةَ فِي الْفَمِ وَالْمَضْغِ وَأَمَّا قَبْلُ وَبَعْدُ فَلَا يُكْرَهُ لِعَدَمِ الْعِجْزِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ وَفِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ: مَرَّ عَلَى قَوْمٍ الْخِمْ مِثْلُ عِبَارَةِ الْهِنْدِيَّةِ وَهَذَا يَقْضِي بِكَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْآكِلِ مُطْلَقًا إِلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ))^①

”کھانے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے اس لفظ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب لقمہ اس کے منہ میں ہو اور چبانے کی حالت میں ہو اور اس سے پہلے یا بعد میں مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ اب عجز نہیں رہا، شافعیہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے، لیکن ”وجیز کردری“ میں ہے کہ اگر ایسے لوگوں پر گزرا جو کھانا کھا رہے ہیں، اگر اسے کھانے کی حاجت ہے اور جانتا ہے کہ (سلام کہنے کے بعد) یہ لوگ اسے کھانے پر بلا لیں گے تو سلام کہہ دے ورنہ نہ کہے، اور یہ ایک فیصلہ کن بات ہے کہ کھانے والے کو بہر حال سلام کرنا مکروہ ہے خواہ لقمہ منہ میں ہو چبا رہا ہو یا نہیں۔“

یعنی کھانے پر جمع لوگوں کو سلام کہنا مکروہ ہے الا یہ کہ وہ بھوکا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ سلام کہنے کی صورت میں وہ لوگ کھانے کی دعوت دے دیں گے۔
یہ ہے کھانا کھانے والے کو سلام کے بارے میں حنفی مسلک جس کی کمزوری

اور ضعف خود مسئلہ کے مندرجات سے نہایت نمایاں ہے، ان حضرات کے پاس اپنے اس مسئلے پر قرآن و سنت سے ایک بھی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس یہ مسئلہ قرآن و سنت سے یکسر مخالف ہے، حق یہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کہنا بلا شک و شبہ مشروع و مسنون ہے اور اس پر وہ دلائل دال ہیں جن کا ذکر نمازی، قاری اور ذاکر کو سلام کہنے کے مباحث میں گزر چکا ہے ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا باعث تطویل ہے۔

علاوہ ازیں سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سلام اور جواب سلام کو پھیلائے اور عام کرنے کا حکم دیا:

﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾.

[النساء/۸۶]

((أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))

((إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ))

وغیرہ آیات و احادیث کے بعد پھر کب اور کہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے کھانا کھانے والے کو سلام کہنے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے؟ حالانکہ صحابہ و تابعین کا عمل تو وہ ہے جسے نافع نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: کہ ہم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے باہر تھے، ساتھیوں نے کھانا تیار کیا اور دسترخوان پر لگایا، ہم کھانے لگے تو وہاں ایک چرواہا گزرا، اس نے سلام کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی مگر اس نے کہا میرا روزہ ہے۔^۱

حضرات احناف نے لکھا ہے کہ کھانے والے کو سلام کہنا مکروہ و ممنوع ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے تو اسے مکروہ نہیں کہا ہے، معلوم نہیں انہوں نے کراہت کہاں سے نکالی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہاں اگر تجھے بھوک لگی ہے تو سلام کہہ سکتے ہو اور یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں یہ علم ہو کہ سلام کرنے سے وہ تجھے دعوت طعام

دے دیں گے اور کھانے میں شامل کر لیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بھوک نہیں لگی ہے کھانے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ بھوک لگی ہے اور خیال یہ ہے کہ سلام کہنے کی صورت میں کھانے والا سمجھ جائے گا کہ یہ بھوکا ہے اور کھانے کی دعوت دے دے گا تو پھر سلام کہنا جائز ہے اور اگر بھوک لگی ہے اور عدم واقفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کھانا کھانے والا سلام کہنے کے باوجود دعوت نہیں دے گا تو پھر بھی سلام کہنا مکروہ ہے۔ فقہائے احناف کے یہی وہ غیر ذمہ دارانہ اقوال ہیں جن سے سلام کو جو حکم الہی اور سنت رسول ﷺ ہے اور باہمی محبت، آشتی اور اتفاق کی بنیاد ہے اور وہ عمل صالح ہے جس پر بیک وقت تیس نیکیاں ملتی ہیں، بھوک اور سوال کا جملہ بنا دیا گیا یعنی اگر تجھے بھوک لگی ہے اور لوگوں کی سخاوت کی امید ہے تو ان فقہائے کرام کی ڈکٹنری میں اس سوال اور بھیک مانگنے کے لیے ایک جدید لفظ تیار کیا گیا ہے اور وہ ہے: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ اس سے کھانے والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ بھوکے آگئے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو آپ کو کھانا مل جائے گا اور آپ سیر ہو کر کھالیں گے۔

دیکھیے کس قدر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے محبت، اخوت اور سلامتی کے الفاظ کو بھیک مانگنے کا جملہ بنایا گیا جس سے سلام اس موقع پر تقریباً متروک ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی حنفی اس لفظ کو اس موقع پر استعمال نہیں کرتا اور بارہا مشاہدہ ہوا ہے کہ ایک حنفی عین کھانے کے وقت آتا ہے اسے بھوک بھی لگی ہے اور کھانے والے دعوت دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سلام نہیں کرتا اس لیے کہ اس صورت میں تو سلام کہنا بھیک مانگنا ہے اور اس طریقے سے وہ سلام سے محروم جاتے ہیں باوجودیکہ اس وقت بھی کھانے والے اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے یا ان کے کھانے کے بعد لیکن آتے وقت اس نے سلام صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ تو سوال ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح یہ لوگ فاسد آراء کی پیروی کی وجہ

سے سلام سے محروم ہو گئے۔

بعض نے کہا کہ سلام تو صرف اس وقت مکروہ ہے جب لقمہ منہ میں ہو چبا رہا ہو یا نگل رہا ہو احناف کے ہاں یہ قول معتد اور اصل نہیں ہے۔ اصل اور معتد قول پہلا ہی ہے جیسا کہ رد المحتار کے حوالے سے گزرا، لیکن مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی تھوڑا سا کلام کریں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس حالت میں سلام کرنا مکروہ ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ﷺ نے تو نہ ہی اسے مکروہ کہا ہے اور نہ ہی اس سے منع کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے تو سلام کے افشاء اور پھیلانے کا حکم دیا ہے اور یہ حالت بھی اس میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واضح کیا جائے کہ اس دوران عام باتیں کرنا کیسا ہے کیا وہ بھی مکروہ ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ جب لقمہ منہ میں ہو، چبا رہا ہو تو کیا اس وقت بندہ کلام کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے؟

عام مشاہدہ اور تجربہ تو یہ ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً تو عاجز نہیں ہوتے اور اگر تم کہتے ہو کہ حقیقتاً عاجز ہوتے ہیں تو فقہ حنفی کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ حالت اکل (کھانا کھاتے ہوئے) خاموش رہنا مکروہ ہے اور ممنوع ہے۔ بلکہ یہ مجوس کی عادت ہے۔

علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

((وَيُكْرَهُ السُّكُوتُ حَالَةَ الْأَكْلِ لِأَنَّهُ تَشَبُّهُ بِالْمَجُوسِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْمَعْرُوفِ))^①

”کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا مکروہ ہے اس لیے یہ مجوسیوں کے ساتھ تشبہ ہے۔ بلکہ اچھی باتیں کرنی چاہئیں۔“

مسلم معاشرہ میں سلام متروک کیوں؟

سبحان اللہ! ایک طرف تو لکھا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سلام کہنا، جواب سلام دینا مکروہ ہے تو دوسری طرف خاموش رہنا بھی مکروہ ہے اور اچھی باتیں کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں کیا سلام اور جواب سلام اچھی باتوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟

این چہ بو العجیبی است

سلام اور جواب سلام جس کا حکم شریعت نے دیا ہے کھانے کے وقت مکروہ ہو لیکن عام باتیں نہ کرنا مکروہ۔ حالانکہ عام باتیں کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے سلام کے ساتھ اس طرز عمل کو کیا نام دیا جاسکتا ہے؟

حنفی بھائیو! یہ بتاؤ کیا لقمہ منہ میں سال بھر رہتا ہے جس کی وجہ سے جواب سلام میں تاخیر ہو جاتی ہے اور کیا کھانا کھانے والے سب بیک وقت مشینی انداز میں لقمہ منہ میں رکھتے ہیں اور چباتے ہیں۔ اللہ کے بندو! اگر آنے والے نے سلام کہہ دیا تو اگر ایک منہ میں لقمہ ہے اور تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے تو جس کے منہ میں لقمہ نہیں ہے وہ سلام کا جواب دے دے جس سے سب کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا کھانے والا ایک ہے اور اس کے منہ میں لقمہ ہے یا زیادہ ہیں اور سب کے منہ میں لقمہ ہے تو لقمہ سالہا سال منہ میں نہیں رہتا بلکہ سیکنڈوں میں نگل جاتا ہے، نگل لینے کے بعد سلام کا جواب دیا جائے اور یہ اتنی تاخیر نہیں ہے جس سے جواب سلام کا وقت فوت ہو جائے۔ بلکہ احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اس سے بھی زیادہ تاخیر کے بعد سلام کا وقت فوت نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ تاخیر ہو جائے تب بھی جواب سلام دینا لازم ہے۔ ابوالجہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَيْتٍ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ))^①

① صحیح البخاری کتاب التیمم، رقم ۳۳۷/۱ ۴۱۱ صحیح مسلم کتاب التیمم، رقم ۸۲۲

۶۴/۴۰، نووی۔

”نبی ﷺ بر جمل کی طرف سے آئے راستے میں ایک آدمی ان سے ملے اس نے نبی ﷺ کو سلام کہا نبی ﷺ نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ دیوار کو متوجہ ہوئے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کیا پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیا۔“ اور آپ کا یہ جواب تاخیر سے تھا۔

کیا لقمہ نگلنے میں اس سے بھی زیادہ تاخیر ہوتی ہے اندازہ خود لگائیں اور حقیقت یہ ہے کہ لقمہ منہ میں ہو تب بھی باتیں کرنا اور سلام کا جواب دینا واقع بھی ہے اور اس سے بندہ کلام سے عاجز نہیں ہو جاتا: سلام کے متعلق بخل کا رویہ اپنانا درست نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أُبْخِلُ النَّاسَ الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ))^①

”لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کے ساتھ بخل کرے۔“

اور نہ ہی سلام کے بارے میں یہودی روش اختیار کرنا درست ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسْدٌ لَا يَحْسُدُونَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا عَلَى السَّلَامِ وَعَلَى آمِينِ))^②

”یہودی بہت ہی زیادہ حاسد قوم ہے اور یہ جس قدر حسد ہمارے ساتھ سلام اور آمین کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں اس قدر حسد وہ کسی دوسری چیز کے بارے میں نہیں کرتے۔“

بچوں کو سلام کہنا اور ان کے سلام کا جواب دینا:

حنفیہ کے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ بچوں کو سلام نہیں کہا جائے گا اور اگر بچے سلام

① رواہ البخاری فی الأدب المفرد وهو حدیث صحیح قالہ الألبانی فی صحیح الأدب المفرد ۳۹۷ رقم الحدیث ۷۹۵ السلسلة الصحيحة ۶۰۱۔

② أخرجه ابن خزيمة فی صحیحہ ۲/۷۳/۱ قال الألبانی قلت : هذا اسناد صحیح رجالہ کلہم ثقات رجال الصحیح، سلسلة الصحيحة ۳۰۶/۲ رقم الحدیث ۶۹۱

کریں تو ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ عالمگیری میں ہے:

((اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبِيَّانِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ))^①

”بچوں کو سلام کہنے کے بارے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا: ان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔“

ابن عابدین نے وہ اشعار نقل کئے ہیں جن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے سلام

کا جواب نہیں ہے:

رَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى
أَوْسَلَمَ الطِّفْلُ أَوْ السَّكْرَانُ أَوْ شَابَةٌ يُخْشَى إِفْتِنَانُ

”سلام کا جواب دینا واجب ہے مگر اس شخص پر جواب دینا واجب نہیں جو

نماز میں ہے یا کھانے میں مشغول ہے یا بچہ سلام کرے یا مدہوش یا جوان

عورت جس کے فتنے کا خوف ہو۔“^②

ابن عابدین نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے سلام کہنا ناجائز

لکھا ہے وہاں پر سلام کا جواب دینا نہیں ہے:

((وَمَفَادُهُ أَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ لَا يُشْرَعُ فِيهِ السَّلَامُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ))

لیکن حق یہ ہے کہ بچوں کو سلام کہنا مشروع و مسنون ہے اور ان کے سلام کا جواب

دینا لازمی ہے۔ امام بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

((أَنَّ مَرَّ عَلَى صَبِيَّانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ))

”انس رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا: نبی ﷺ

کا یہ عمل تھا۔“^③

② ردالمحتار ۱/۴۵۷۔

① الفتاویٰ الہندیہ ۵/۳۲۵

③ صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب التسليم على الصبيان رقم الحديث ۶۲۴۷،

صحیح مسلم۔ کتاب السلام۔ باب استحباب السلام على الصبيان ۵۶۶۳۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

[الأحزاب / ۲۱]

”تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول ﷺ میں عمل کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔“

عنبہ ابن عمار نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا:

((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصَّبِيَّانِ فِي الْكُتَابِ))^①

”میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ مکاتب میں بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔“

سلام کے متعلق دلائل عامہ اور یہ دلائل خاصہ بچوں کو سلام کہنے کی مشروعیت و مسنون ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں آیت کریمہ:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾

[النساء / ۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹاؤ۔“

اس آیت کریمہ میں اس بات پر واضح دلالت ہے کہ سلام جس شخص کی طرف سے ہو اس کا جواب دینا ضروری ہے خواہ وہ بچہ ہی ہو۔ اس سلسلے میں راستے میں سلام کے متعلق آداب نبوی سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ))^②

”چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے

① صحیح الأدب المفرد ۳۹۸

② صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب تسلیم القلیل علی الکثیر ۶۲۳۱۔

لوگ زیادہ کو۔“

اس میں تصریح ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور اس میں صغر سے مراد صغر سی نبی ہے اور صغر حقیقی اس کا ایک فرد ہے۔ بچوں کو سلام کہنے میں اور ان کے سلام کا جواب دینے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ آداب شریعت کے بارے میں ان کی تربیت و تدریب ہوتی ہے اور سنتوں کے جاننے اور یاد کرنے کی بہترین مشق ہے، اگر بچوں کو سلام نہ کیا جائے اور ان کے سلام کا جواب نہ دیا جائے تو وہ کس طرح اس عظیم سنت سے آشنا ہو سکیں گے اور کس طرح اس کے عادی بنیں گے؟

جب سے لوگ ان حقیقہ بین کی باتوں میں آکر اس عظیم سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہی چھوٹے بڑے ہو کر بھی سلام سے ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں۔

فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى مِنْ صَنِيعِ هَٰؤُلَاءِ الْمُتَفَقِّهَةِ.



عورتوں کو سلام کہنا

مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو سلام کہنا جائز اور مشروع ہے

اسماء بنت یزید بیان فرماتی ہیں کہ:

((مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا))

”نبی ﷺ کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ ﷺ نے

ہمیں سلام کیا۔^①

ام ہانی بنی النخع سے روایت ہے:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ

بَثُوبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ))

”میں فتح مکہ والے دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ

غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ بنی النخع نے آپ کو کپڑے سے پردہ کیا ہوا

تھا، پس میں نے آکر آپ کو سلام عرض کیا۔^②

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک (بوڑھی) عورت تھی

وہ چقدر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی (پکاتی) اور جو کے کچھ دانے پیستی، فَاِذَا

صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتَقْدِمُهُ إِلَيْنَا، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ

کر واپس آتے اسے سلام کرتے: تو وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی۔^③

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے، مذکورہ

① [حسن] سنن أبی داؤد، کتاب الأدب۔ باب السلام علی النساء رقم الحدیث ۵۲۰۳ الصحیحۃ ۸۳۳

② صحیح البخاری، الأدب / ۶۱۵۸۔ الأدب المفرد رقم الحدیث ۱۰۴۵ صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۳۶

③ صحیح البخاری، الاستئذان۔ باب تسلیم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال رقم الحدیث ۶۲۴۸

مسلم معاشرہ میں سلام ترک کیوں؟

احادیث سے ائمہ محدثین نے بھی یہی سمجھا ہے اور اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ (مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں کو سلام کہنا) باب قائم کیا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بَابُ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ، امام نسائی رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ قائم کیا ہے

”یعنی عورتوں کو سلام کہنے کا باب۔“

بعض لوگ عورتوں کو سلام کہنا مطلقاً ممنوع قرار دیتے ہیں بعض جوان اور بوڑھی کا فرق کرتے ہیں لیکن یہ باتیں مذکورہ احادیث اور دیگر نصوص کے خلاف ہیں اور اس لیے بھی کہ اصل جواز ہے اور افشاء سلام کی حدیثوں کے تحت یہ صورتیں بھی آتی ہیں (اور دیکھیے حاشیہ الأدب المفرد للألبانی رحمہ اللہ رقم الحدیث ۱۰۴۷ کے تحت)

بعض لوگ فتنے کا بہانہ بنا کر مرد عورت کے سلام کرنے کو ناجائز کہتے ہیں، یہ بھی ایک موهوم اور خود ساختہ صورت ہے۔ سلام جب مسنون سلام ہو اور اپنی حد تک ہو تو اس سے فتنے پیدا نہیں ہوتے۔ حاجت و ضرورت کے وقت مرد عورت سے اور عورت مرد سے بات کر سکتی ہے اس پر تمام کا اتفاق ہے تو ایسی صورت میں سلام کرنا بھی درست ہے اس کے علاوہ صورتوں میں سلام خود ایک شرعی ضرورت ہے لہذا اس پر عمل کرنا درست ہے۔

باقی إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ [بخاری] عملوں کا اعتبار نیتوں سے ہے۔ اور مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق/۱۸) انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔

خلاصہ یہ کہ مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سلام کہنا اور محارم عورتوں مردوں کا ایک دوسرے کو سلام کہنا بالاقفاق جائز ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بعض لوگ گھر آتے وقت اپنے گھر والوں بیوی، اولاد کو سلام نہیں کہتے، اسی طرح بعض عورتیں اپنے شوہروں کو جواب سلام اور خوش

آمد تک نہیں کہتیں، یہ سب خلاف شرع کام ہیں۔

البتہ یہ بات یاد رہے کہ اجنبی غیر محارم عورتوں سے مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا بالکل جائز نہیں ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ))

”میں (اجنبی غیر محرم) عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔“^①

قاضی، مفتی، حاکم، استاذ، مدرس، فقہ کا مطالعہ کرنے والا، محدث، خطیب، فقہ کا تکرار کرنے والا، اور ان کو سننے والا

فقہ حنفی کے مطابق ان سب کو سلام کہنا مکروہ ہے صاحب رد المحتار تشریح فرما رہے ہیں:

((سَلَامُكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعُ مُصَلٍّ وَتَالٍ ذَاكِرٍ وَمُحَدِّثٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَعْمٌ فَيَكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى مُسْتَعِلٍ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ (خَطِيبٍ) يَعْمُ جَمِيعَ الْخُطْبِ (وَمَنْ يُصْغِي إِلَيْهِمْ وَيَسْمَعُ أَى مَنْ ذُكِرَ وَلَوْ إِلَى الْمُصَلِّي إِذَا جَهَرَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي التَّالِي - (مُكَرِّرٍ فَقَه) أَى لِيَحْفَظَهُ أَوْ يَفْهَمَهُ (جَالِسٍ لِقَضَائِهِ) فَاسَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا الْوَلَاةِ وَالْأَمْرَةِ عَلَى الْقَاضِي وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْخُصُومَ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُقْبِي لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَامِلٌ وَمَنْ بَحَثُوا فِي الْفَقْهِ))^②

حالانکہ قرآن و سنت میں کہیں پر بھی ان لوگوں کو سلام کہنے کی کراہت ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن و سنت کی متعدد نصوص سلام کے افشاء، پھیلائے اور عام کرنے کی ترغیبات پر مشتمل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ خود قاضی، مفتی، حاکم، استاذ، مدرس، محدث،

① صحیح: سنن النسائي، البيعة، باب بيعة النساء ٤١٨٦

② رد المحتار ٤٥٥/١، ٤٥٦، الفتاوى الهندية ٣٢٥/٥

اور خطیب تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپ سے ملتے تو سلام کہا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ سلام کے افشاء اور عام کرنے کے بارے میں نبوی ارشادات کے بعد کب اور کس حدیث میں مذکورہ اشخاص مستثنیٰ کئے گئے ہیں؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اپنی جگہ میں تشریف فرما ہیں، علی وعباس رضی اللہ عنہما کے درمیان باغ فدک کے متعلق اختلاف ہے، ان کے درمیان اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم سفارش کے لیے امیر المؤمنین کے پاس آتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا حاجب ”یرفا“ امیر المؤمنین حاکم وقت اور قاضی سے عرض کرتا ہے:

((هَلْ لَكَ فِي عُمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ، وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ))

”کیا عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم کو آنے کی اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، وہ لوگ آئے اور سب سلام کر کے بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر بعد علی وعباس رضی اللہ عنہما آئے، ان کو بھی اجازت مل گئی، وہ آئے اور دونوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: امیر المؤمنین! ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں۔ عثمان اور اس کے ساتھیوں نے بھی کہا: امیر المؤمنین! ان دونوں کا فیصلہ فرمائیں اور ان کو ایک دوسرے سے بے فکر کر دیں۔“

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ حاکم اور قاضی کو آنے والوں نے اور خصمین نے سلام کیا، ثابت ہوا فقہائے احناف کا مذکورہ موقف غلط اور بلا

دلیل ہے۔

وعظ، تقریر اور خطبہ کے دوران سلام کہنا اور اس کا جواب دینا

تقریر و خطبہ کے دوران سلام کہنا اور حاضرین کا جواب دینا بلاشبہ مشروع اور درست ہے اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جس میں مجلس میں آنے اور مسلمان کے ساتھ ملاقات ہو جانے کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے۔ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ. [مسند احمد، ابوداؤد] جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کہے۔ اور إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. [صحیح مسلم ۵۶۵۱] جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کہہ۔ اور أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. [صحیح مسلم] آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور مؤطا امام مالک کی حدیث جو ابوداؤد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَا)) [مؤطا الإمام مالك ۳۵۸/۲] ①

”دریں اثناء کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی آئے دو رسول اللہ ﷺ کی طرف آئے اور ایک چلا گیا، جب وہ دونوں مجلس کو پہنچے تو دونوں نے سلام کہا۔“ یہ ایک وعظ و تعلیم کی مجلس تھی، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب العلم میں اس حدیث پر ترجمۃ الباب ”بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ“ محدث پر حدیث کا پیش کرنا اور پڑھنا قائم کیا ہے۔

① صحیح البخاری۔ کتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حدیث ۵۳۵۸،

تو مذکورہ نصوص عام ہیں اور عام کے عموم پر عمل ہوگا مگر یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ملے جو یہاں نہیں ہے، اسی طرح حاضرین کا جواب دینا بھی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾

[النساء/۸۶]

”جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹاؤ۔“

کیا خطبہ جمعہ کے دوران سلام کہنا جائز ہے؟

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے مذکورہ بالا نصوص کے عموم کے پیش نظر خطبہ جمعہ کے دوران سلام اور جواب سلام کو جائز کہا ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا: دوران خطبہ خاموشی فرض ہے لیکن سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا درست ہے۔ [المحلی ۳/۲۶۸] اسی طرح کا قول ابو یوسف، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ سے بھی منقول ہے۔ [تحفة الأحوذی ۳/۵۸]

بعض دیگر علماء نے حدیث:

((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطِّبُ فَقَدْ لَعْنَتْ))

”جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا: خاموش ہو جا اور امام خطبہ دے رہا ہو تو یقیناً تو نے لعنہ کا کیا۔“^①

اور اس معنی کی دیگر حدیثوں کے عموم کے پیش نظر دوران خطبہ جمعہ سلام اور جواب سلام

کو ناجائز کہا ہے۔

یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے اور حنفیہ کے بعض ائمہ کا بھی یہی قول ہے۔^②

① صحیح البخاری۔ کتاب الجمعة، الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب رقم الحديث ۹۳۴،

صحیح مسلم، الجمعة ۵۱

② تحفة الأحوذی ۳/۵۸، المحمودی ۴/۵۲۴

شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔^①

عبدالرحمن مبارکپوری رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جواب سلام آہستہ سے دل میں دے لیکن انہوں نے ابتداء سلام کہنے کے بارے میں کچھ واضح نہیں کہا ہے۔ دیکھیے: تحفة الأحوذی ۵۸/۳ بعض دیگر نے کہا، سلام کہنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے سلام کہا تو سامعین خطبہ اشارے سے جواب دیں۔^②

یہ دونوں قول عجیب ہیں اور اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہ قائلین نے پیش کی ہے اور نہ ہی ہمارے علم میں ہے۔ البتہ دوران خطبہ آنے والا شخص اور خطبہ سننے والا جیسا کہ امام کے ساتھ بات کر سکتا ہے اسی طرح اسے سلام بھی کہہ سکتا ہے اور امام کے لیے جواب سلام اور کلام دونوں درست ہیں۔

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَصَلَّيْتُ يَا فُلَانُ! فَقَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ))^③

”ایک آدمی آیا اور نبی ﷺ جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس سے پوچھا اے فلاں! تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا: نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تو پڑھ۔“

اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے:

((قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا))

”کہ ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول! مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں اور اولاد بھوکے ہیں آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ تو

① تمام المنة ص ۲۳۹۔ ② فتاویٰ اللجنة الدائمة ۲۴۳/۸

③ صحيح البخاری ۱/۲۷۱ قدیمی کتب خانہ

آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔“

سائل کے سلام کا جواب دینا:

فقہ حنفی میں حضرات فقہاء نے سائل محتاج اور کسی ضرورت کے تحت آنے والے کے سلام کا جواب معاف کر دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ اپنی حاجت مندی کی وجہ سے مانگنے اور سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جواب سلام تو ان لوگوں کے سلام کے لیے ہے جو محض ملاقات کے لیے آتے ہیں۔^①

علامہ ہسکفی حنفی الدر المختار میں فتاویٰ قاضی خان سے نقل فرماتے ہیں:

((وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ سَلَامَ السَّائِلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّحِيَّةِ))^②

”سائل کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اس لیے کہ یہ سلام تحیہ کے لیے نہیں ہے۔“

عالمگیری میں ہے:

((السَّائِلُ إِذَا سَلَّمَ لَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ السَّائِلُ إِذَا أَتَى بَابَ دَارِ إِنْسَانٍ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهِ))^③

”سائل جب سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اسی طرح خلاصہ میں ہے۔ سائل جب کسی کے گھر کے دروازے پر آ کر ”السلام علیک“ کہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔“

یہ محتاجی اور غربتی کا صلہ ہے کہ اب اس کا سلام بھی قابل جواب نہیں ٹھہرا اور فقہائے کرام کے اس مسئلے کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ افسران بالا، مال دار، خوانین، جاگیر دار اور وڈیرے وغیرہ جو محتاج لوگوں کے سلام کا جواب قدرے نہیں دیتے ہیں،

① اس رسالہ کا صفحہ ۸۳ مسجد میں سلام ممنوع ہے پھر پڑھیے۔

② الفتاویٰ العالمگیریہ ۳۲۵/۵۔

③ رد المحتار ۲۹۳/۵۔

مسلم معاشرہ میں سلام متروک کیوں؟

ان پر کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ وہ مسئلہ فقہیہ پر عمل پیرا ہیں۔

میرے بھائی! کیا اس طرح کے مسائل طبقاتی اونچ نیچ کو مذہبی بنیادیں نہیں فراہم کرتے؟ اور اسلام کی بدنامی کا باعث نہیں بنتے؟ باوجودیکہ اسلام میں اس طرح کے مسائل کی گنجائش بھی نہیں ہے۔

ہم بعد آداب برادرانِ احناف سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی نص کی بنیاد پر یہ مسئلہ لکھا گیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

[النساء/۸۶]

”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان:

((أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) [مسلم، ترمذی]

”اپنے درمیان سلام کو عام کرو“

کے عموم و شمول سے مسائل کو کس نے نکالا ہے؟

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے تو نہیں نکالا ہے، تو تشریح کا اختیار اور کس

کے پاس ہے؟

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ

الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدُّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ))^①

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر پانچ حقوق واجب ہیں: سلام

کا جواب دینا، چھینک آنے والوں کو جواب دینا، دعوت قبول کرنا، مریض

① صحیح مسلم۔ کتاب السلام۔ باب حق المسلم علی المسلم رد السلام، رقم الحدیث ۶۵۰

کی عیادت کرنا، جنازے پر جانا۔“

بتائیے سائل اور محتاج مسلمان نہیں ہے؟ کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر یہودی، نصرانی بھی سلام کرے تو اس کا بھی جواب دیا جائے:

((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَ عَلَيْكُمْ))^①

”جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو جواب میں ”وعلیکم“ کہو۔“

لیکن کیا ایک سائل جو مسلمان ہے لیکن محتاج ہے وہ یہودی، نصرانی سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس کے سلام کا جواب بھی ضروری نہیں سمجھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سائل کے بارے میں فرمایا:

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحیٰ/ ۱۰]

”اور جو سائل ہے اسے مت جھڑک۔“

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاریات/ ۱۹]

”اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے۔“

بار بار آنے جانے اور بار بار ملاقات ہو جانے کی

صورت میں سلام کہنا ضروری ہے

رسول کریم ﷺ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اسے سلام کیا جائے۔ خواہ یہ ملاقات کئی بار کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مسیء الصلوۃ مروی ہے: ایک آدمی مسجد میں داخل

① صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب کیف الرد علی أهل الذمة بالسلام ، رقم

الحديث ۶۲۵۸، صحیح مسلم۔ کتاب السلام رقم الحديث ۵۶۵۲، ۲۱۶۳

ہوا نبی ﷺ مسجد کے ایک طرف (کونے) میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی اور پھر آیا نبی ﷺ کو سلام کیا، نبی ﷺ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا:

((اَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))

”واپس جاؤ نماز پڑھو تو نے نماز نہیں پڑھی۔“

تین بار ایسے ہوا وہ شخص آتا سلام کرتا نبی ﷺ سلام کا جواب دیتے اور پھر دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے:

((إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))^①

اس مسئلے پر نہایت صریح نص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ خَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ))^②

”جب تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے پس اگر ان دونوں کے درمیان کوئی، درخت، دیوار یا پتھر حائل اور آڑ بن جائے اور پھر ملاقات ہو جائے تو پھر بھی اسے سلام کرے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے اس فرمان پر کس طرح عمل کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کا عنوان ہے:

① صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب من رد فقال عليك السلام، رقم الحديث ۶۲۵۱

② صحیح: سنن أبی داؤد، کتاب الأدب۔ باب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه هل يسلم عليه

((الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ كُلَّمَا لَقِيَ))
 ”ایک شخص دوسرے کو سلام کرے گا جب بھی اور جتنی بار بھی اس سے ملے۔“

نافع کہتے ہیں:

((كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا فِي أَرْضِ الرُّومِ
 فَبَالَتْ ذَابِئَتِي فَقَامْتُ، فَبَالَتْ فَلَحِقْتُهُ ، فَقَالَ: أَلَا سَلَّمْتُ؟
 فَقُلْتُ: إِنَّمَا فَارَقْتُكَ أَلَانَ قَالَ: وَإِنْ فَارَقْتَنِي الْآنَ ، كَانَ
 أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَسَايَرُونَ فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ الشَّجَرَةُ
 فَيَلْتَقُونَ فَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ))^①

”میں ارض روم میں عبد اللہ بن زکریا کے ساتھ جا رہا تھا، میری سواری پیشاب کے لیے رکی، اس کے پیشاب کرنے کے بعد میں اس سے آگے آگیا تو اس نے مجھے کہا: کہ تم نے (آکر) سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا: ابھی ہی تو میں آپ سے جدا ہو گیا تھا، آپ نے کہا: خواہ ابھی ہی کیوں جدا نہ ہوئے ہو (تجھے پھر بھی سلام کرنا چاہیے تھا) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ راستے میں چل رہے ہوتے تھے اگر راستے میں کوئی درخت آکر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتا تو دوسری طرف ملنے کے بعد پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے۔“

لیکن آئیے فقہ حنفی کے مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقہ حنفی کی معروف کتاب ”احسن الفتاویٰ“ (۱۴۳/۸) میں تحریر ہے:

سوال: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ)) [رواہ أبوداؤد،

مشکاۃ ۲/۳۹۹]

② اسی طرح ہے اور ابوداؤد میں فَلْيُسَلِّمْ ہے

① مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۷/۶

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی کوئی دیوار حائل ہو پھر آنا سامنا ہو تو ہر مرتبہ سلام کہنا چاہیے۔ کیا یہ درست ہے؟ بَيِّنُوا قُوَّ جُرُؤًا۔

((الْجَوَابُ بِاسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ))

یہ حکم احیاناً پیش آنے والی صورت پر محمول ہے، جہاں بار بار یہ صورت پیش آتی ہو مثلاً کوئی مخدوم کے کمرے میں بار بار آتا جاتا رہتا ہے تو اس میں تکرار سلام و جواب میں حرج ظاہر ہے اس لیے یہ صورت حدیث سے مستثنیٰ ہے۔^①

اب ہم اللہ کے فضل سے ان دعوؤں کا جائزہ لیتے ہیں جن سے ان شاء اللہ قارئین کو دعوؤں کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

پہلا دعویٰ: ”یہ حکم احیاناً پیش آنے والی صورت پر محمول ہے“ ہم پوچھتے ہیں کہ اس حکم کو کس نے حمل کیا ہے جناب کے حمل کرنے کا تو اعتبار نہیں اس حمل پر دلیل کیا ہے؟ قرآن دست میں تو احیاناً کا ذکر نہیں ہے اور ”إِذَا“ ظرف زمان ہے کہ جس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو۔ اگر شجر، حجر اور جدار حائل ہو جائیں تو اس کے بٹنے اور پھر ملنے کی صورت میں دوبارہ سلام کرو۔ صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا اور تابعین بھی اسی پر چلتے رہے، حدیث کے واضح الفاظ صحابہ کرام کی فہم و طرز عمل اور تابعین کا اس کے مطابق عمل، ان سب باتوں کے برعکس آپ حضرات جس ڈگر پر چل رہے ہیں، اس کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے! حاصل یہ کہ مذکورہ دعویٰ محض دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ بار بار آنے جانے کی صورت میں تکرار سلام و جواب میں

حرج ہے۔

ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں حرج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. [الحج/۷۸]

”اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔“

دین سہل ہے اور دین کے احکام پر عمل بغیر حرج کے ممکن و واقع ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس صورت کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرمایا اور اس کو کر کے دکھایا، صحابہ کرام دتا بعین کو اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی حرج محسوس نہیں ہوا، اور الحمد للہ اس دور میں بھی عالمین بالکتاب والسنۃ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کسی حرج کو نہیں جانتے۔

صحابہ کرام کے اس قسم کے واقعات کے لیے دیکھیے: الأدب المفرد، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کے مباحث سلام۔

تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ بار بار آنے جانے کی صورت میں سلام و جواب سلام اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مستثنیٰ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے تو استثناء ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ایک بلا دلیل دعویٰ ہے۔

وضوء کرنے والے کو سلام کہنا:

بعض فقہائے حنابلہ نے کہا ہے: وضوء کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے۔^①

لیکن یہ بات درست نہیں۔ وضوء کرنے والے کو سلام کہنا بلاشبہ مشروع ہے کراہت اور منع کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور افشائے سلام کے متعلق بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن کے عموم کے تحت متوضیٰ بھی داخل ہے، بلکہ غسل کرنے والے کو سلام کہنے کی صحیح و صریح حدیث موجود ہے:

ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِيَةَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيَةَ))^②

① الآداب الشرعية لابن مفلح ۱/ ۴۵۳۔

② اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

”میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی، آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے اور آپ ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑے سے آپ کو پردہ کیا ہوا تھا میں نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا: ام ہانی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا: خوش آمدید ام ہانی۔“

اس حدیث سے غسل کرنے والے کو سلام کہنے کی مشروعیت ثابت ہوئی اور جب یہ ثابت ہوا تو وضوء کرنے والے کو سلام کہنا بطریق اولیٰ ثابت ہوتا ہے۔
نیز اس حدیث سے ان حنفی و دیگر فقہاء پر رد ہے جو غسل کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ سمجھتے ہیں۔

حضرات حنابلہ نے مہاجر بن قنفذ کی حدیث سے استدلال کیا ہے لیکن یہ محل نظر ہے اس لیے کہ مہاجر بن قنفذ کی حدیث کو ابن ماجہ کے علاوہ نسائی اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أُرَدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوئٍ))^①

”میں نبی ﷺ کے پاس آیا، آپ وضوء فرما رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، جب وضوء سے فارغ ہوئے تو فرمایا: جواب سلام سے مانع میرا بے وضوء ہونا تھا۔“

ابن ماجہ نے اسے ”بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ“ پیشاب کرنے والے کو سلام کہنا، کے تحت ذکر کیا ہے۔ علامہ سند بن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

((قَوْلُهُ: ”وَهُوَ يَتَوَضَّأُ“ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: ”وَهُوَ

① صحیح: سنن ابن ماجہ۔ أبواب الطهارة۔ باب الرجل يسلم عليه وهو يتوضأ۔ ۳۵۰۔

الصحيحة: ۸۳۷۔

يَتَوَضَّأُ“ اُئِى هُوَ فِى مُقَدِّمَاتِ
الْوُضُوءِ وَالْمُصَنِّفُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَدِيثِ فِى هَذِهِ
الْتَّرْجَمَةِ))^①

”وہو يتوضأ“ کا لفظ جو ہے، نسائی اور ابوداؤد کی روایت میں اس کی
جگہ ”وہویول“ ہے تو ان الفاظ ”يتوضأ“ کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ
آپ ﷺ وضوء کے مقدمات میں تھے اور مصنف نے اس کو اس باب
کے تحت ذکر کر کے اس پر تنبیہ کی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصل لفظ ”وہو یول“ ہے یعنی آپ پیشاب کر رہے
تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ”وہو يتوضأ“ مقدمات الوضوء پر محمول ہے۔ لہذا اس
سے استدلال درست نہیں۔

علاوہ ازیں اگر لفظ ”وہو يتوضأ“ ہی ہو تو پھر بھی وضوء کرنے والے کو سلام کہنے کی
کراہت کے لیے اس سے استدلال کرنا تام نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس روایت میں بھی نبی
ﷺ نے سلام کرنے والے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کے فعل کی تقریر فرمائی اور وضوء
کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا، جیسا کہ ابن مفلح نے ذکر کیا ہے:

((أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ
وُضُوءِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُرَدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي
كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ))^②

”مہاجر بن قنفذ نے نبی ﷺ کو سلام کیا، آپ نے وضوء سے فارغ
ہونے کے بعد اس کا جواب دیا، اور فرمایا: ”جواب سلام سے مجھے مانع یہ رہا
کہ مجھے ناپسند لگا کہ میں اللہ کا ذکر طہارت کے بغیر کروں۔“

① حاشیہ السنندی علی سنن ابن ماجہ۔ أبواب الطهارة۔ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول۔

② الآداب الشرعية ۱/۳۷۷

ابن مفلح نے اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

((إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ: أَرَادَ بِهِ الْفَضْلَ لِأَنَّ الذِّكْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ - لَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ))^①

”اس حدیث کی سند جید ہے اسے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں ابو حاتم بھی ہیں، اس نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور کہا ہے: کہ اس سے مراد فضیلت ہے اس لیے کہ طہارت کے ساتھ ذکر افضل ہے یہ مطلب نہیں کہ بغیر طہارت کے ذکر مکروہ ہے۔“

اس حدیث کو حاکم (۱/۱۶۸) نے بھی صحیح کہا ہے اور ذہبی نے اس کی تائید کی ہے، ابن حبان نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

((قَوْلُهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ أُنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ، أَرَادَ - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ - الْفَضْلَ لِأَنَّ الذِّكْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ، لَا أَنَّهُ يَكْرَهُهُ لِنَفْيِ جَوَازِهِ))^②

”نبی ﷺ کا یہ فرمانا: کہ مجھے ناپسند لگا کہ میں اللہ کا ذکر بغیر طہارت کے کروں، اس سے آپ ﷺ کی مراد فضیلت ہے، اس لیے کہ طہارت کے ساتھ ذکر افضل ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اس لیے مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ابن حبان کے اس قول کی تائید عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ))^③
 ”رسول اللہ ﷺ ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔“

① الآداب الشرعية ۱/۳۷۷ ② الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان ۳/۸۳۔
 ③ صحیح مسلم مع شرح النووی: باب ذکر اللہ فی حال الحنابة وغیرھا۔ ۱/۱۶۰ قدیمی کتب خانہ

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا:

((وَيَكُونُ مُعَظَّمُ الْمُقْصُودِ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ مُتَطَهِّرًا وَمُحَدِّثًا ، وَجُنُبًا ، وَقَائِمًا ، وَقَاعِدًا ، وَمُصْطَجِعًا ، وَمَاشِيًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ))^①

”اس حدیث سے بڑا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ ﷺ با وضوء، جنابت کی حالت میں، کھڑے، بیٹھے، لیٹے اور چلتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔“

اور بغیر وضوء کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جواز پر بخاری کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے: ”بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ“ (قرآن کا بے وضوء ہونے وغیرہ حالت کے بعد پڑھنا) اور اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر کی ہے جس میں وہ اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ: آدمی رات یا آگے پیچھے:

((اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي))

”رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے، بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملتے ہوئے نیند ختم کر رہے تھے، پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی دس آخری آیتیں تلاوت فرمائیں، پھر ایک لٹکائے ہوئے مشکیزے کی طرف اٹھے، آپ نے اس سے وضوء کیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔“

اس حدیث سے واضح ہوا کہ آپ نے سورۃ آل عمران کی آیتیں بلا وضوء پڑھیں، جس سے بلا وضوء ذکر و تلاوت کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مہاجر بن قنفذ کی حدیث

① صحیح البخاری۔ کتاب الوضوء۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره رقم الحديث ۱۸۳۔

یا تو حالت بول پر محمول ہے۔ جس میں سلام کہنا بالاتفاق ممنوع ہے اور یا یہ کہ اس میں تاخیر برائے حصولِ فضیلت ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر سلام کرنے والا موجود ہے تو جواب سلام میں کسی معقول و محمود غرض کے لیے تاخیر درست ہے۔

قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کہنا:

سلام چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ہے لہذا گندی جگہوں میں اس کا ذکر کرنا مکروہ ہے اور اسی وجہ سے قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کہنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح قضائے حاجت میں مشغول کا جواب سلام دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:

((أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَلَّى، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ))^①

”ایک آدمی گزرا اور رسول اللہ ﷺ پیشاب کر رہے تھے، اس نے سلام کیا، رسول اللہ ﷺ نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔“

اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں اس حالت میں سلام کہنے سے صریح ممانعت آئی ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

((أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنِ فَعَلْتَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ))^②

”ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس سے گزرا، آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا تو رسول اللہ ﷺ نے (فارغ ہونے کے بعد) اسے فرمایا:

① صحیح مسلم، الطہارۃ باب التیمم، رقم الحدیث ۸۲۳، ۱/۱۹۱

② سنن ابن ماجہ، الطہارۃ باب الرجل یسلم علیہ و هو یبول ۶۳ صحیح ابن ماجہ ۶۳ رقم الحدیث

۲۰۲۸۲، سلسلۃ الصحیحۃ رقم الحدیث ۱۹۷۔

”جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو تو مجھے سلام نہ کیا کرو اگر تم نے کیا، تو میں سلام کا جواب نہیں دوں گا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کہنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے سلام کیا تو اسے جواب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن فقہ حنفی کی عظیم کتاب ”عالمگیری“ کا فتویٰ اس سے مختلف ہے:

((رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْخَلَاءِ يَتَغَوَّطُ وَيَتَوَلَّى لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَرُدُّ السَّلَامَ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ))^①

”ایک آدمی بیت الخلاء میں قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کہتا ہے اس کو ایسا کرنا مناسب نہیں لیکن اگر سلام کہا تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ سلام کا جواب دل سے دے گا زبان سے نہیں۔“

ہم اس طرز عمل کو کیا نام دے سکتے ہیں کہ جہاں پر سلام کہنا ثابت اور مشروع ہے، وہاں پر سلام کہنے کو انہوں نے مکروہ اور ناجائز قرار دیا ہے، جس کے نمونے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن جہاں رسول کریم ﷺ سے صریح نبی ثابت ہے اور آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہے۔ وہاں پر ”لَا يَنْبَغِي“ جیسے نرم الفاظ لائے ہیں کہ صرف مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کہے تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ وہ جواب سلام کا مستحق بھی ہے کہ دل سے اس کا جواب دیا جائے گا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا خود آپ کا فرمان ہے: ”لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ“ میں تیرے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ دل سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب کوئی پوچھے یہ کس حدیث کے الفاظ ہیں؟ اور کیا رسول اللہ ﷺ سے اس حالت میں دل سے جواب سلام ثابت ہے؟ یقیناً ثابت نہیں ہے

تو پھر اس کو کیا نام دیا جاسکتا ہے ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ فقہ حنفی کے اکثر مسائل امام ابوحنیفہ پر الزام ہیں یعنی بعد کے نام نہاد حنفی مشائخ نے ایسے مسائل گھڑ لینے کے بعد ان کے ذمے لگا دیئے ہیں۔

سوئے ہوئے یا سونے کے قریب شخص کو سلام کہنا

اگر کوئی آدمی ایسی جگہ میں آئے جہاں پر لوگ سوئے ہوئے ہیں یا سونے کے قریب ہیں یا بعض جاگ رہے ہیں اور بعض سو رہے ہیں، تو ایسی جگہ میں نبی کریم ﷺ کی تعلیم کے مطابق سلام کہنا بلاشبہ مشروع و مسنون ہے۔ نبی کریم ﷺ کی اس بارے میں تعلیم یہ ہے کہ ایسی صورت میں پست آواز سے سلام کیا جائے کہ جاگنے والے سن سکیں اور سونے والے اس سے نہ جاگیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں باب باندھا ہے:

((بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّائِمِ))

”سوئے ہوئے شخص کو سلام کہنا“

اور اس کے تحت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْلِمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ

نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْبَقْظَانَ))^①

”نبی ﷺ رات کو آتے تو اس انداز سے سلام کرتے تھے جو سوئے ہوئے کو

نہیں جگا تا تھا اور جاگنے والے کو سنا لیتے تھے۔“

① صحیح الادب المفرد ۳۹۳ رقم الحدیث ۷۸۴، اسی طرح اس کو مسلم ۱۲۸/۶ نے بھی روایت

کیا ہے مقدار رضی اللہ عنہ کی جو حدیث مسند احمد میں مذکور ہے اس میں یہ بات مصرح ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو جب تشریف لائے تو اس وقت میرے دودھ بیکر ساقی سو گئے تھے اور میں بھی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر لیٹا تھا آپ نے سلام کیا جو کہ جاگنے والے کو سنائی دیتا تھا اور سوئے ہوئے شخص کو نہیں

جگا تا تھا۔ مسند احمد ۵۰، ۴، ۳، ۲/۶۔

یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث جن میں سلام پھیلانے اور عام کرنے کا حکم ہے حالت مذکورہ میں سلام کہنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔
ادھر فقہ حنفی کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نائم اور ناعس کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ ملا علی قاری حنفی رقمطراز ہیں:

((مِنْ ذَلِكَ مَقَامَاتٌ وَمَوَاضِعٌ مِنْهَا إِذَا كَانَ مُشْتَغَلًا بِالْبُؤْلِ وَالْجَمَاعِ وَنَحْوِهَا فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْهَا إِذَا كَانَ نَائِمًا أَوْ نَاعِسًا))^①

”جہاں پر سلام کہنا مکروہ ہے وہ یہ جگہیں ہیں۔ جیسے پیشاب کرتے وقت اور جماع کے وقت اور اس کے مثل جیسے کوئی سویا ہوا ہو یا سونے کے قریب ہو۔“

جماع کرنے والے کو سلام کہنا:

فقہ حنفی کا طرہ امتیاز جس پر احناف کو بڑا ناز و فخر ہے یہ ہے کہ یہ فقہ بہت سے فرضی مسائل مع ان کے جوابات سے لبریز اور پُر ہے۔ حضرات احناف اس پر بضد ہیں کہ یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ان فرضی اور عادیہ یا عقلی غیر ممکن الوقوع مسائل کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان فرضی مسائل میں سے ایک جماع کرنے والے کو سلام کہنے کا مسئلہ بھی ہے۔ فقہ حنفی میں جماع کرنے والے کو سلام کہنا مکروہ لکھا ہے:

((مِنْهَا إِذَا كَانَ مُشْتَغَلًا بِالْبُؤْلِ وَالْجَمَاعِ وَنَحْوِهَا فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ))^①

”ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب وہ قضائے حاجت یا جماع کرنے میں مشغول ہو (یا اس کے مثل دیگر حالات میں) تو اس کو سلام کہنا مکروہ ہے۔“
یہ فقہ حنفی کا ایک اہم مسئلہ۔ اب قارئین کرام غور فرمائیں کہ کیا عمل جماع کسی بازار

یا پبلک پارک یا دیگر مقامات عامہ میں سرانجام پاتا ہے کہ وہاں لوگوں کی رسائی ہوتی ہے لہذا لوگ مذکورہ مسئلہ پر عمل کرتے ہوئے سلام سے اجتناب کریں۔ کیا یہ ایک غیر واقعی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے اس طرز جماع کا اختیار کرنا جائز ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو جب ایسی صورت کا واقع ہونا نہ شرعاً درست ہے اور نہ ہی عرفاً واقع ہے تو پھر ایسی غیر ممکن الوقوع صورتوں کے لیے مسئلہ گھڑ لینا فقہت ہی کہلائے گا؟ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ جماع پردے اور لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو اور حتیٰ کہ جماع کی باتوں کو بھی مخفی رکھا جائے، چہ جائیکہ عمل جماع ہی ظاہر ہو کہ وہاں رسائی اور آمد و رفت ہو جس کے نتیجے میں سلام کرنے کا موقع بھی آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

[النور/۲۷، ۲۸]

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔“

ظاہر ہے کہ جماع کسی پارک، روڈ اور مقامات عامہ میں کرنا تو جائز نہیں ہے، جماع گھر، رہائش گاہ، اور باپردہ جگہ میں کرنے کا حکم ہے اور کسی کی رہائش گاہ اور گھر میں

مسلم معاشرہ میں سلام متروک کیوں؟

بغیر اجازت کے اندر جانا جائز نہیں ہے اور جب جانا جائز نہیں ہے تو جماع کرنے والے کو سلام کہنے کا موقع نہیں آئے گا، اور اگر اجازت سے جاتا ہے تو دوسروں کے سامنے جماع کرنا ہی جائز نہیں تو وہ جماع کی حالت میں نہیں ہوگا، تو پھر اسے سلام کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور مانع کونسا ہے؟ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے ایسی صورت کا پیدا کرنا ہی جائز نہیں اور نہ ہی الحمد للہ یہ صورت عادتاً واقع ہے۔ تو ایک عادتاً غیر ممکن الوقوع اور شرعاً ناجائز صورت کے لیے مسئلہ گھڑ لینا کہاں کی نقاہت ہے؟

برہنہ (ستر کھلے ہوئے) شخص کو سلام کہنا:

فقہ حنفی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مکشوف العورة (برہنہ شخص) کو سلام کہنا ناجائز و مکروہ ہے۔ رد المحتار میں ہے:

((مَكْشُوفٌ عَوْرَةً ظَاهِرَةً وَلَوْ الْكُشْفُ لِلضَّرُورَةِ))^①

”اور ستر کھلے ہوئے شخص کو سلام کہنا مکروہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ ستر کھولنا کسی

ضرورت کے تحت کیوں نہ ہو پھر بھی اسے سلام کرنا مکروہ ہے۔“

اب صورت حال یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے اندر تو مکشوف العورة اور برہنہ نہیں ہوتے اور نہ ہی شرعاً اس کی اجازت ہے سوائے اپنی بیوی، باندی کے پاس اور کسی شرعی طبی غرض کے دوسرے مواقع پر ستر کھولنا جائز نہیں ہے اور الحمد للہ مسلمان اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جب عملی میدان میں ایسی صورت حال ہے ہی نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے فضول اور فرضی مسائل گھڑ لیے گئے ہیں؟

کافر کو سلام کہنا:

سلام چونکہ ایک اسلامی شعار و تحیہ ہے کافر اس کا مستحق نہیں۔ لہذا کافر کو سلام کے ساتھ پہل اور ابتداء کرنا جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

((لَا تَبْدُ أَوْا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ))^①

”نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو نہ عیسائیوں کو اور جب انہیں کسی راستے میں ملو تو انہیں اس طرف (سے گزرنے پر) مجبور کرو جو زیادہ تنگ ہو۔“
یہود و نصاریٰ اور تمام مشرکین کو پہلے سلام کہنے میں ان کی تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے، حالانکہ عزت کے حق دار صرف اہل ایمان ہیں:

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .
[المنافقون / ۸]

”عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مگر منافق لوگ جانتے نہیں“
ان کافروں سے جنگ فرض ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں:

﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ .

[التوبة / ۲۹]

اس سے ثابت ہوا کہ یہودیوں، نصraniوں اور تمام مشرکین کو پہلے سلام نہیں کیا جائے گا اور یہ نہی مطلق اور عام ہے، تمام حالات اور صورتوں کو شامل ہے، ان کافروں کو پہلے سلام کرنے کی قباحت اور برائی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس طرز عمل سے مزید واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے نہ پہچاننے کی وجہ سے (ابن عمر رضی اللہ عنہما آخر عمر میں ناپینا ہو گئے تھے) ایک نصrani کو سلام کہا، آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ نصrani ہے، آپ واپس پلٹے اور اس نصrani سے کہا: مجھے میرا سلام واپس کرو:

① صحیح مسلم۔ کتاب السلام رقم الحديث ۲۱۶۷ تحفة الأشراف مسند أبي هريرة ۹/ ۴۱۱۔

((مَرَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَصْرَانِيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ،

فَأَخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٍّ فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي))^①

سلام کی ایک حکمت رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے:

((أَوْ لَا أَذِلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفُشُوا السَّلَامَ

بَيْنَكُمْ))^②

”کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان

محبت پیدا ہو جائے آپس میں سلام عام کرو۔“

جبکہ کفار کے متعلق یہ حکم ہے کہ انہیں اپنا دوست مت بناؤ:

﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة / ۱]

”میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔“

کفار ذلیل ہیں اور ان کو اسی ذلت کا احساس دلانے کے لیے اور اسے مستقل رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو پہلے سلام نہ کرو اور اگر راستے میں تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے تو ان کے لیے کھلا راستہ مت چھوڑو، بلکہ انہیں مجبور کرو کہ تنگ تر راستے سے گزریں۔

لیکن تعجب ہوتا ہے فقہائے احناف پر کہ جہاں رسول اللہ ﷺ نے سلام کہنے اور پھیلانے کا حکم دیا ہے وہاں ایک ایک جگہ سے انہوں نے سلام کو نکال دیا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول ﷺ نے سلام کہنے سے منع فرمایا ہے وہاں پر انہوں نے بسیار تاویلوں سے سلام کو رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بالابصار الدراختار کا متن ہے اس کے اندر رکھا ہے:

((وَيُسَلِّمُ أَهْلَ الدِّمَةِ))

① صحیح الأدب المفرد ص ۴۳۰، إرواء الغلیل ۱۲۷۴۔

② صحیح مسلم کتاب الایمان / ۱۹۴

”مسلمان ذمی کا فر کو سلام کرے گا۔“

اور یہ مطلقاً ذکر ہے۔ الدر المختار کے مصنف علامہ ہکشی حنفی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ماتن کے نزدیک یہ مطلقاً ہے اور مقید نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ”حاجة“ کی قید لگا دی ہے (تا کہ بات کسی حد تک درست ہو جائے): الدر المختار مع متن کی عبارت یہ ہے:

((وَيُسَلِّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى (أَهْلِ الذِّمَّةِ) لَوْلَا حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَإِلَّا كِبَرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ))^①

”اور مسلمان کا فر ذمی کو سلام کرے گا اگر مسلمان کو کوئی حاجت درپیش ہے کافر کے پاس اور اگر اس کے پاس مسلمان کو کوئی حاجت درپیش نہیں ہے تو پھر سلام کہنا مکروہ ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے۔“

علامہ ابن عابدین شرح میں ”وہو الصحيح“ کے تحت لکھتے ہیں:

((قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ بِلَا تَفْصِيلٍ وَهُوَ مَا ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَائِخِ))

”یہ ”صحیح“ ”لا باس بہ بلا تفصیل“ کے مقابلے میں ہے، یعنی حاجت وغیرہ حاجت سب صورتوں میں کافر کو سلام کہنے کے جواز کا جو قول خانیہ فتاویٰ قاضی خان میں بعض مشائخ احناف سے منقول ہے (اور بہت سے احناف نے اسے قبول کیا ہے)۔“

تو صحیح یہ ہے کہ حاجت کے وقت سلام کرے اور حاجت نہ ہو تو سلام نہ کرے۔

ابن عابدین ”لَوْلَا حَاجَةٌ“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

((أَيْ إِلَى الذِّمِّيِّ الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَقَامِ، قَالَ فِي السَّارِ خَانِيَّةٍ: لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ السَّلَامِ لَتَوْقِيرِهِ وَلَا تَوْقِيرَ إِذَا كَانَ السَّلَامُ لِحَاجَةٍ))^②

”یعنی ذمی کافر کے پاس مسلمان کو حاجت درپیش ہے تو سلام کرے گا۔
تارخانہ میں ہے: کہ یہ اس لیے کہ کافر کو سلام کہنے سے جو منع اور نہی آئی
ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب کافر کو سلام اس کی عزت اور توقیر کے
لیے کیا جائے اور جب آپ کافروں کے پاس اپنی حاجت لے جا کر سلام
کریں گے تو اس صورت میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔“

عالمگیری میں ہے:

((أَمَّا التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ حَاجَةٌ إِلَى الذِّمِّيِّ وَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ
فَلَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ))^①

”ذمی کافروں کو سلام کہنے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے، بعض نے
کہا ہے، کہ کافر کو سلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض نے کہا: کہ ذمی
کافر کے پاس حاجت پیش نہ آنے کی صورت میں سلام نہ کیا جائے
اور اگر مسلمان کی حاجت ہے تو پھر (بالاتفاق) سلام کہنے میں کوئی حرج
نہیں۔“

ابن عابدین الدر المختار کی عبارت سابقہ کی تشریح میں لکھتے ہیں:

((أَنْظَرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ
وَاحِدًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي بِلَفْظِ الْمُفْرَدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي
الرَّدِّ، تَأَمَّلْ))^②

”دیکھو کیا یہ جائز ہے کہ جب ذمی ایک ہے اسے جمع کے لفظ کے ساتھ
سلام کیا جائے (یعنی السلام علیکم کہا جائے) ظاہر یہ ہے کہ اگر ذمی ایک

ہے تو لفظ مفرد (السلام علیک) سے سلام کیا جائے گا۔ جیسا کہ جواب سے
ماخوذ ہے۔“

خلاصہ یہ کہ بعض مشائخ حنفیہ کے نزدیک تو کافر کو مطلقاً سلام کہا جائے گا اور بعض دیگر نے حاجت درپیش ہونے کی قید لگائی ہے اور حاجت مندی کی صورت میں تمام مشائخ احناف کا جواز پر اتفاق ہے۔

اب ہمارے حنفی بھائی خود سوچیں کہ کیا ان فقہاء کا طرز عمل رسول اللہ ﷺ سے مقابلے کا طرز عمل نہیں ہے؟ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: کہ اہل کتاب اور مشرکین کو سلام میں پہل نہ کرو، یہ ایک واضح اور عام حکم ہے، ان کے لیے یہ تحیہ نہیں ہے۔

لیکن جس طرح مطلقاً عام اور واضح ممانعت نبی ﷺ نے بیان فرمائی ہے، اسی انداز میں فقہائے احناف نے اس کے جواز اور مشروعیت کو بیان کر دیا ہے اور بعض نے گویا جو کی شریعت میں رہ گئی تھی وہ پوری کر دی اور کہہ دیا کہ حاجت مندی کی صورت میں سلام کہنا درست ہے۔ لیکن کوئی حنفی جسارت نہیں کر سکے گا کہ اپنے علماء، فقہاء سے پوچھے کہ اس جواز عام کی کیا دلیل ہے؟ کونسی آیت یا حدیث میں اس جواز عام یا حاجت مندی کی قید سے مقید سلام کا ذکر یا حکم آیا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا اس لیے کہ دلیل کا پوچھنا یہاں گستاخی ہے۔

فتاویٰ تارخانہ والے نے تو کمال دوری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ اگر مسلمان کافر کا محتاج ہے یعنی کوئی کام درپیش ہے تو اس صورت میں سلام کرنے میں کافر کی عزت نہیں ہے اور بغیر حاجت و کام کے سلام ہو تو اس میں کافر کی عزت ہے، کیسی عجیب منطق ہے اور حیرت ناک عقل الکلی کا مظاہرہ ہے!!

اپنی حاجات برآوری کے لیے سوالی بن کر کافر کے دروازے پر جاؤ اسے سلام کرو تو اس میں کافر کی عزت نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اس طرز عمل کو اب کیا نام دیا جائے، یہ قاری کی ذمہ داری ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

جہاں پر اللہ کے رسول ﷺ نے سلام کے عام کرنے کا حکم دیا ہے وہاں انہوں نے مختلف موانع ایجاد کیے اور روڑے اٹکائے اور جہاں اللہ کے رسول ﷺ نے سلام کہنے سے منع فرمایا ہے یہ لوگ اسے جائز و مشروع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ:

(۱) اس میں صریح نہی کی واضح مخالفت ہے (۲) کفار کی تعظیم اور حوصلہ افزائی ہے، (۳) یہودیوں کے دلوں سے حسد کے شعلوں کو دور کرنا ہے اس لیے یہودی مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اور جب مسلمان ان کو سلام کرے گا تو ان کے دلوں میں سرور و خوشی کی لہر دوڑ جائیگی ہے اس لیے کہ وہ اس میں شریک کئے گئے، (۴) علاوہ ازیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مخالفت ہے:

﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ . [التوبة/ ۱۲۳]

”اور چاہیے کہ کفار تم میں سختی پائیں۔“

(۵) ان کو سلام کرنا ان سے محبت اور ہم آہنگی کی علامت ہے۔

کافر کو ”والسلام علی من اتبع الهدی“ کہنا

جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کو اسلام کی دعوت ایک نہایت بلیغ اور لطیف انداز میں دینے کے لیے اور ان کو تبلیغی خطوط میں لکھنے کے لیے یا ان لوگوں سے ان مقاصد بالا کے لیے ملاقات کی صورت میں جو لفظ نصوص شرعیہ سے ثابت ہے وہ ”السلام علی من اتبع الهدی“ کا جملہ ہے۔ یہ ایک مقید سلام اور اس کا معنی ہے: ”سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی تابعداری کی“، اگر مسلم علیہ میں اتباع و ہدایت کی صفت موجود ہے تو اس کے لیے دعاء سلامتی ہے ورنہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں ان دونوں کا قول نقل فرمایا:

﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾

[طہ/۴۷]

”تحقیق ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔“

اور نبی ﷺ نے ہر قل کو خط میں لکھا:

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى))^①

حافظ ابن حجر نے یہاں ایک سوال اٹھا کر خود ہی جواب تحریر فرمایا ہے: سوال یہ ہے

کہ اس میں تو کافر کو ابتداء بالسلام ہے جو کہ نبی ﷺ کی طرف سے ممنوع ہے۔ جواب میں فرمایا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد تحیہ و سلام معروف نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ وہ ہے جو اسلام لایا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آیا ہے:

﴿أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾

”کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور روگردانی کرے۔“

اور رسول اللہ ﷺ کے خط کے بقیہ حصے میں ہے:

((فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّنَ))^②

”اگر تو اعراض کرے گا تو اریسین کا گناہ تم پر ہے“

جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کافر کو ابتداء بالسلام کا قصد نہیں ہے اگرچہ ظاہر الفاظ

سے یہ مفہوم ہوتا ہے، لیکن مقصد میں کافر داخل نہیں ہے اس لیے کہ ”من اتبع الهدی“

① صحیح البخاری کتاب بدء الوحی رقم الحدیث ۷۔

② صحیح البخاری کتاب بدء الوحی رقم الحدیث ۷۔

میں سے نہیں ہے۔ تو سلام بھی اس کو نہیں کیا گیا ہے۔

حقیقت میں یہ دعوت کا ایک نہایت بلیغ انداز ہے کہ دعوت کے ساتھ وعدہ اور وعید دونوں ہیں: کہ جو ہدایت کا تابع ہے وہ تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، جو تابع نہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں، اس کے لیے سلامتی نہیں۔ تو اے کافر! ہدایت کا تابع بن جاتا کہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے اور سلامتی والا ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں یہ دعوت کے سلسلے میں ذکر ہوا اور نبی ﷺ کے خط میں بھی یہ برائے دعوت ہی ہے۔ لہذا یہ سلام تحیہ نہیں ہے۔

حنفیہ میں سے صاحب الشرعہ نے لکھا ہے کہ اہل ذمہ کو "السلام علی من اتبع الهدی" سے سلام کیا جائے گا اور خطوط میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جائے گا:

((إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَكَذَلِكَ يُكْتَبُ فِي الْكِتَابِ إِلَيْهِمْ))^①

مصنف عبدالرزاق میں قتادہ سے منقول ہے:

((السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ يُبَوِّتُهُمُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى))^②

”جب اہل کتاب کے پاس جاؤ تو ان کو ”السلام علی من اتبع الهدی“ کہو۔“

محمد بن سیرین سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے۔^③

لیکن جیسا کہ واضح ہوا یہ تحیہ اور سلام معروف نہیں ہے بلکہ تمام کافروں کو اس لفظ سے دعوت اسلام دی جائے گی، فرعون اور ہر قل ذمی تھوڑے تھے۔ جبکہ ان کے لیے یہ لفظ برائے دعوت دین استعمال ہوا تھا۔

② مصنف عبدالرزاق ۱۲/۶ المکتب الاسلامی

① رد المحتار ۲۹۲/۵

③ نقلہ الحافظ فی الفتح ۳۱/۱۱۔

یہ بھی واضح رہے کہ مسلمان کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنا ثابت نہیں ہے۔

جس مجلس میں مسلمان، کافر سب جمع ہوں تو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
اگر کسی مسلمان کا ایسی مجلس پر گزر ہو جائے تو جس میں مسلم کافر سب بیٹھے ہوں تو اس میں نبی کریم ﷺ کا طریقہ سلام (السلام علیکم) کہنے کا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے تو مراد بھی مسلمان ہی ہیں۔

صحیح بخاری میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّفَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))^①

”نبی کریم ﷺ ایسی مجلس پر گزرے جس میں مسلم، مشرک، بت پرست اور یہودی بیٹھے تھے، نبی ﷺ نے سلام کیا۔“

لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے: فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

((قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو الْلَيْثِ : إِنْ مَرَرْتَ بِقَوْمٍ وَفِيْهِمْ كُفَّارٌ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَتُرِيدُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى كَذَا فِي الدَّخِيْرَةِ))^②

”فقہ ابو الیث نے کہا: اگر تمہارا گزرا یہ لوگوں پر ہو جائے جن میں (مسلمانوں کے علاوہ) کافر (بھی) ہیں تو آپ کو اختیار ہے آپ

① صحیح البخاری۔ کتاب الاستئذان۔ باب التسلیم فی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین

والمشرکین حدیث ۶۲۵۴۔

② الفتاویٰ العالمگیریۃ ۳۲۵/۵۔

چاہیں تو ”السلام علیکم“ کہیں اور نیت مسلمانوں کی کریں، اور اگر چاہیں تو کہیں: ”السلام علی من تبع الہدی“۔
نبی ﷺ سے تو ایسی صورت میں ”السلام علیکم“ کہنا ثابت ہے اور یہی شریعت کا طریقہ ہے۔

کافر (اہل کتاب) کے سلام کا جواب

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ))

”جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو جواب میں ”وعلیکم“ کہو۔^①

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُم: السَّامُ

عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ))

”جب یہود تمہیں سلام کریں ان کا ہر ایک ”السام علیک“ (تم پر موت

ہو) کہتا ہے، تو تم جواب وعلیک کہو۔^②

ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب (کفار) سلام کریں تو ان کے جواب

میں صرف وعلیکم کہا جائے خواہ وہ اسلام صحیح تلفظ کریں یا مروڑ کے السام بولیں ہر دو

صورتوں میں جواب وعلیکم سے دیا جائے گا۔

بعض علماء، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب درست تلفظ کے

ساتھ السلام علیکم کہیں تو اس صورت میں جواب میں وعلیکم کے ساتھ السلام

کا اضافہ کرنا جائز ہے۔ یعنی ”وعلیکم السلام“ [دیکھیے: الصحیحۃ ۲/۳۲۸۔

① صحیح البخاری، الاستئذان باب کیف یرد علی أهل الذمة ۶۲۵۸، صحیح مسلم، السلام رقم

الحديث ۲۱۶۳

② صحیح البخاری، الاستئذان۔ باب کیف یرد علی أهل الذمة ۶۲۵۶

۳۳۰، الأدب المفرد للألبانی ۱۱۰۲ لیکن راجح یہی ہے کہ جواب میں ”وَعَلَيْكُمْ“ پراضافہ نہ کیا جائے۔

فاسق اور معصیت میں مبتلا شخص کو سلام کہنا یا اس کے سلام کا جواب دینا: امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے:

((بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنْ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ ، حَتَّى تَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ إِلَى مَتَى تَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ ؟))

”باب: جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو جائے اور کب تک اس کی توبہ ظاہر ہوتی ہے؟

پھر اس نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا:

((لَا تَسْلِمُوا عَلَى شَرِّهِ الْخَمْرِ))

”شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو۔“

اور پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی جس میں آپ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اس میں ہے:

((وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي :

هَلْ حَرَّكَ شَفَّتِيهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ؟))^①

”میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر سلام کہتا تو دل میں کہتا کہ آپ ﷺ

نے جواب سلام کے ساتھ ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں؟“

اس سلسلے میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے:

((قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبُحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فَلَمْ يَرُدَّ ، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ حُبَّةٌ حَرِيرٌ فَأَنْطَلَقَ

① صحیح البخاری، الاستبانات رقم الحدیث ۶۲۵۵

الرَّجُلُ مَحْزُونًا إِلَىٰ أَمْرَاتِهِ فَقَالَتْ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جُبَّتَكَ وَخَاتَمَكَ ، فَأَلْقَاهَا ثُمَّ غَدَّ فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلَامَ))^①

”ایک آدمی بحرین سے واپس آ کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سلام کیا، نبی ﷺ نے جواب نہیں دیا، اس آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگٹھی اور اوپر ریشم کا جبہ تھا۔ یہ شخص غمگین حالت میں گھر چلا گیا گھر جا کر اپنی بیوی سے یہ بات کردی، بیوی نے کہا: شاید رسول اللہ ﷺ تجھ پر تیرے بچے اور انگٹھی کی وجہ سے ناراض ہوں، اسے رکھ دو پھر دوبارہ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا (اور آ کر سلام کیا) نبی ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔“

اسی طرح امام ابو داؤد و اپنی سنن میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں:

((قَالَ قَدِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي لَيْلًا، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَقُونِي بِرِزْعَفْرَانَ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَغْسِلْ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَغْسِلْ هَذَا عَنْكَ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي))^②

”میں رات کے وقت اپنے گھر لوٹا، میرے ہاتھ پٹھے ہوئے تھے، میرے (گھر والوں) نے اس پر رزعفران لگایا، صبح کے وقت میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور سلام کیا، تو آپ ﷺ نے نہ تو میرے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی خوش آمدید و ترحیب کہی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: ”جاؤ اور اسے دھو کر

② مسند أحمد ۳/۱۴، سنن النسائي ۸/۱۷۵ نسائی کی سند جید ہے

① سنن أبي داؤد، كتاب السنة باب ترك السلام على أهل الأهواء رقم الحديث ۶۴۰۱ وهو

حدیث حسن قاله الألبانی انظر صحيح أبي داؤد ۳۵۱۹۔

آؤ۔“ میں گیا اور ہاتھوں کو دھو کر آ گیا، پر میرے ہاتھوں پر تھوڑا سا نشان باقی تھا، میں نے آکر سلام کیا نبی ﷺ نے پھر سلام کا جواب نہیں اور نہ ہی خوش آمدید اور ترحیب کہی، اور مجھے کہا کہ ”جاؤ اور اسے (بھی) دھو آؤ،“ میں گیا اور اسے دھو کر واپس آیا، سلام کیا تو آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے ”مرحبا“ بھی کہا۔“

ان احادیث و آثار سے فاسق و مبتلائے معصیت کو سلام کہنے یا اس کے سلام کا جواب دینے کی کراہت پر استدلال کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک قابل قبول تحقیق کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسق، مبتلائے معصیت اور مبتدع کو سلام نہ کہنا یا اس کے سلام کا جواب نہ دینا ”ہجر“ اور ”زجر“ کے قبیلے سے ہے اور یہ ہجر اور زجر کسی صاحب ریاست مثلاً والدین، استاذ، امیر اور حاکم کی طرف سے ہو، تو جہاں پر اس سے ان لوگوں کی اصلاح کی توقع ہو تو اس پر عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا اور اگر صاحب ریاست نہیں ہے تو پھر چونکہ ترک سلام و جواب سلام سے مقصود اصلی حاصل نہیں ہوتا اور دیگر بڑے مفاسد کے پیدا ہونے کا احتمال ہے تو پھر اصل پر عمل ہونا چاہیے۔^①

فاسق و مبتلائے معصیت کو سلام کہنے کے سلسلے میں بعض فقہائے احناف سے تو کراہت منقول ہے۔ لیکن خود حنفی فقہ کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف لکھا ہے، رد المحتار شامی میں ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مبتلائے معصیت کو باقاعدہ سلام کیا جائے گا اور نیت یہ کی جائے کہ ان لوگوں کو اس سلام کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے اس عمل گناہ سے دوسری طرف مشغول کیا جائے:

((وَيُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَعَلَى مَنْ يَلْعَبُ الشَّطْرُ نَجَ نَاوِيًا أَنْ يُشْغِلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ))^②

① مجموع فتاویٰ شیخ الإسلام ابن تیمیہ، ۲۸/۲۰۴

② رد المحتار ۵/۳۹۴، الفتاویٰ العالمگیریہ ۵/۳۲۶۔

سلم معاشرہ میں سلام متروک کیوں؟

اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنفی کے ہزار ہا مسائل امام ابوحنیفہ پر الزام ہیں۔ اصل میں وہ مسائل یا تو مشائخ بغداد کے ہوتے ہیں یا مشائخ بلخ و سمرقند کے اور اب تو مزید شاخیں بن گئی ہیں، مشائخ افغان اور مشائخ ہند۔ مذکورہ مسئلہ میں احناف نے جو موقف اختیار کیا ہے یعنی فاسق کو سلام کہنے کا وہ اس وجہ سے نہیں کہ سلام ایک حکم عام ہے تمام مسلمانوں کو کیا جائے گا بلکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان الفاظ سے ان کی توجہ بٹ جائے گی اور وہ سلام کے جواب کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مشغول ہو جائیں گے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ فاسق کو سلام کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو پھر نیت مذکور سے کیسے جائز ہو گیا، اور کیا مذکورہ طریق سے جواز سلام کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے؟ اور اگر فاسق کو سلام کہنا جائز ہے تو پھر مذکورہ خود ساختہ نیت و فلسفے کی کیا حاجت ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے اور صرف ان کو مشغول کر دینا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وظیفہ کس وقت ادا کیا جائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ان کو عمل فسق سے مشغول کرو بلکہ ہٹاؤ اور اگر یہ بھی نہیں تو دوسری باتوں سے ان کو کیوں مصروف نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بلادلیل تاویل ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ احادیث و آثار سے یہ بات واضح ہے کہ فاسق اور مبتلائے معصیت کو سلام نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تاکہ ان کو زجر اور تنبیہ حاصل ہو جائے اور وہ اپنے فسق و معصیت کے ارتکاب سے باز آجائیں اس تفصیل کے مطابق جو شیخ الاسلام کے قول کے خلاصے میں گزری ہے۔ لیکن ادھر علمائے احناف نے کہا کہ فاسق کے سلام کا جواب دینا واجب ہے:

((وَيَنْبَغِي وَجُوبُ الرَّدِّ عَلَى الْفَاسِقِ لِأَنَّ كَرَاهَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ لِلزَّجْرِ فَلَا تَنَافِي الْوُجُوبَ عَلَيْهِ - تَأْمَلْ))^①

”فاسق کے سلام کا جواب واجب قرار دینا مناسب ہے اس لیے کہ فاسق کو سلام کہنا اسے زجر دینے کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے اور یہ اس کے جواب

سلام کے وجوب کے منافی نہیں۔“

خلاصہ یہ کہ ان کے بقول امام ابوحنیفہ کے نزدیک فاسق اور بتلائے معصیت کو سلام کہنا درست ہے جبکہ علامہ شامی کے بقول فاسق کے سلام کا جواب تو واجب ہی ہے۔
فقہ حنفی کا عجیب مسئلہ: دیہاتی اور شہری ایک دوسرے سے ملیں تو کون سلام میں پہل کرے گا؟

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ
وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ((لَيْسَ لِمَنْ صَغِيرُ
عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) ①

”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو
اور تھوڑے زیادہ کو، اور بخاری کی روایت میں ہے: چھوٹا بڑے کو سلام کہے
اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“

ترمذی کی ایک روایت میں: ”وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ“ کے الفاظ بھی ہیں: یعنی
چلنے والا کھڑے شخص کو سلام کہے۔

اسی طرح جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو دونوں کو ابتداء کا حکم ہے
”أَفْشُوا السَّلَامَ“ سلام عام کرو۔ ان میں سے جو پہل کرے گا وہ افضل ہے جیسا کہ دو
قطع تعلقی کرنے والے ایک دوسرے سے ملیں تو ان کے بارے میں فرمایا:

((وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) [متفق علیہ]

”ان میں سے بہتر وہ ہے جو ”السلام“ میں پہل کرے۔“

جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں:

وَالْمَاشِيَانِ أَثَمُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ [صحيح الأدب

① اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

[المفرد: ۷۵۴، ۹۸۳]

”دو پیدل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کہے وہ افضل ہے۔“

یہ حدیث مرفوعاً بھی صحیح ہے: [الصحيحة: ۱۱۴۶]

رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کہے گا۔ فرمایا:

((أَوْ لَا هُمَا بِاللَّهِ)) [صحيح الترمذی ۲۱۶۷]

”دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے۔“

اب آتے ہیں فقہ حنفی کی طرف کہ اس میں ان تعلیمات رسول ﷺ کے برعکس کیا طرز عمل اور خود ساختہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں؟

علامہ ابن عابدین حنفی رد المحتار میں رقمطراز ہیں:

((وَفِي الْبَرَزَانِيَّةِ : وَيُسَلِّمُ الْأَتْنَى مِنَ الْمِصْرِيِّ عَلَى مَنْ يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الْقُرَى وَقِيلَ : يُسَلِّمُ الْقُرَوِيُّ عَلَى الْمِصْرِيِّ))^①

”شہر سے آنے والا (راستے میں) دیہات سے آنے والے کو سلام کہے

گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیہاتی شخص شہری کو سلام کہے گا۔“

یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی مذکور ہے:

((اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمِصْرِيِّ وَالْقُرَوِيِّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَلِّمُ الَّذِي جَاءَ مِنَ الْمِصْرِ عَلَى الَّذِي يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الْقُرَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْقَلْبِ))^①

”لوگوں نے شہری اور دیہاتی کے سلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے

بعض نے کہا کہ شہر سے آنے والا دیہات سے آنے والے کو سلام کہے

گا اور بعض نے اس کے الٹ کہا ہے۔“

محترم قارئین! اسے آپ ہی کوئی نام دیں، کیا یہ شریعت کے اندر اپنی ایجاد سازی

نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ ﷺ کا بتایا ہوا طریقہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے تو یہ طریقہ نہیں بیان کیا ہے۔ کیا رسول اللہ ﷺ کے طریقے کی خلاف ورزی اور آپ پر استدراک نہیں ہے؟ آؤ دیگر عجائب بھی سنیں: عالمگیری میں ہے:

((اِسْتَقْبَلَتْہٗ رِجَالٌ وَّنِسَاءٌ یُسَلِّمُ عَلَیْہُمْ فِی الْحُكْمِ لَا فِی الدِّیَانَةِ کَذًا فِی الْوَجِیْزِ لِلْکُرْدِیِّ))

”راستے میں ایک شخص کو مرد اور عورتیں ملیں تو یہ شخص ان کو حکماً سلام کہے گا دیناً نہیں۔ کروری کی ”وجیز“ میں اسی طرح ہے۔“

اب بتاؤ کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے بلکہ یہ تو خود دلائل صحیحہ کے خلاف مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا حکم یہ ہے کہ: تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ یہاں پر مرد زیادہ اور پھر عورتیں بھی ساتھ مل کر پوری جماعت کثیر تعداد ہے لیکن سلام دینا ختم ہے۔ یعنی نہ کہنے میں کوئی گناہ نہیں۔

پرانے دنئے سب ایک ہیں

بعض لوگ یہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے مسائل اگرچہ فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں لیکن پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اب کے احناف کا اس پر عمل نہیں ہے۔ لہذا ایسے مسائل چھیڑنا اختلافات کو ہوا دینا ہے۔

اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم واقعی طور پر نہ تو اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمارا منہج ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اختلافات کو ختم کر دیں اور اختلافات ختم ہونے کا بہترین اور کارگر نسخہ قرآن نے بتا دیا ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ﴾ [النساء/۵۹]

”اگر تم کسی چیز کے بارے میں اختلاف و نزاع کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو۔“ یعنی قرآن و سنت سے راہنمائی لے لو۔

ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ سب مسلمان کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیں، مذکورہ مسائل میں ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے مضبوط دلائل پیش کر کے خود ساختہ مسئلوں کی غلطی اور مصنوعیت واضح کر دی ہے اور اس سے مقصد یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اصل دین کا پتہ چل جائے اور اسی پر عمل پیرا ہوں۔

مذکورہ مسئلے جس طرح احناف قدیم کی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ لوگ اس پر عمل پیرا رہے، اسی طرح آج کے احناف بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھتے جا رہے ہیں، بلکہ اس بارے میں تو پہلے سے بھی زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کتابوں، رسائل، فتاویٰ جات، پوسٹر اور اشتہارات کی شکل میں مذکورہ مسائل لکھے اور شائع کئے جاتے ہیں۔ مساجد میں ان خود ساختہ مسائل کے اشتہارات چسپاں کئے جاتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں کراچی کے دیوبندی احناف کے مفتی اعظم رشید احمد صاحب اپنے فتاویٰ ”احسن الفتاویٰ“ (۱۳۶/۸) میں اس مسئلے کے بارے میں رقمطراز ہیں: مواقع کراہت سلام درج ذیل ہیں:

(۱) جو شخص جواب دینے سے عاجز ہوا سے سلام کہنا، خواہ ہیئتہ عاجز ہو جیسے کھانے میں مشغول ہو یا شرعاً عاجز ہو جیسے نماز، اذان، اقامت، ذکر، تلاوت، علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہو (۲) قاضی کو مجلس قضاء میں خصمین کا سلام کہنا (۳) نامحرم جوان عورت۔ (۴) برہنہ شخص۔ (۵) پیشاب پاخانہ میں مشغول شخص۔ (۶) شطرنج وغیرہ میں مشغول شخص۔ (۷) بیوی کے ساتھ مشغول شخص۔

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ بزازیہ، خانیہ، تزاریہ، وحیزیہ، شامی اور عالمگیری کے پیروکار احناف کی طرح موجودہ احناف بھی انہیں مسائل پر نظریاتی و عملی طور پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا ”إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ“ کے تحت یہ چند اوراق سپرد قلم کئے گئے ہیں۔ چونکہ مفتی رشید احمد صاحب کے بیان کردہ مواقع کراہت سلام وہی ہیں جن پر پہلے سیر حاصل بحث ہوئی ہے لہذا اس پر یہاں دوبارہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم

اس بارے میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔

جناب مفتی صاحب نے کہا: ”جو شخص جواب دینے سے عاجز ہو اسے سلام کہنا، خواہ حقیقۃً عاجز ہو جیسے کھانے میں مشغول شخص یا شرعاً عاجز ہو جیسے نماز، اذان، اقامت، ذکر، تلاوت، علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہو، یعنی ان لوگوں کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے پیش روؤں کی طرح کھانے میں مشغول کو حقیقۃً عاجز قرار دیا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے گزشتہ اوراق میں اس خود ساختہ عاجزی کی قلعی کھول دی ہے مزید برآں یہ حقیقت ہے کہ ان کی اس خود ساختہ کراہت پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور نصوص کے مقابلے میں استعمال کی جانے والی عقل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ان کے بقول اگر کھانے میں مشغول شخص حقیقۃً عاجز ہے تو اگر یہ لوگ ذرا عقل ہی استعمال کرتے تو پھر تو صورت یہ بنتی کہ کھانا کھانے والا چونکہ سلام کے جواب سے حقیقۃً عاجز ہوتا ہے لہذا اس سے جواب دینا ساقط ہے۔ رہ گیا سلام کہنے والا تو وہ عام سنت جاریہ پر عمل کر کے سلام کہے۔ سلام کہنا علیحدہ حکم ہے اور جواب سلام علیحدہ حکم ہے۔ اگر ایک شخص بالفرض عاجز ہے تو دوسرے کو تو اس حکم پر عمل کرنے دو، احناف نے گو نگے کو سلام کہنا مکروہ نہیں لکھا ہے حالانکہ وہ حقیقۃً جواب دینے سے عاجز ہے۔ احناف نے بہت سی جگہوں میں اس کے اشارے کو مثل کلام کے مانا ہے۔ نکاح، طلاق، بیع اور وصیت میں گو نگے کے اشارے کو مثل کلام و نطق کے تسلیم کیا ہے۔ [دیکھیے: رد المحتار ۵۸۴/۲، الفقه الاسلامی وأدلته]

یہاں بھی اگر ان کے ہاں کھانے میں مشغول حقیقۃً عاجز ہے تو سر یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دینے کا مسئلہ بیان کرتے۔ خلاصہ یہ کہ کھانے میں مشغول شخص نہ حقیقۃً عاجز ہوتا ہے اور نہ ہی حکماً و شرعاً۔ یہ احناف کا ایک مسئلہ ہے جس کی نہ تو شریعت تائید کرتی ہے اور نہ ہی عقل۔ پھر محترم مفتی صاحب نے فرمایا: ”یا شرعاً عاجز ہو جیسے نماز اذان وغیرہ“، شرعاً عاجز کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اسے سلام کے جواب دینے سے منع کیا ہے اسے شریعت نے عاجز بنا دیا ہو۔ اب یہاں نمازی شرعاً عاجز ہے یعنی شریعت نے اسے سلام کا جواب دینے سے منع کیا ہے اور اس کے متبادل کے طور پر ہاتھ کے اشارے سے جواب سلام کی

تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اس کے علاوہ مواضع یعنی اذان، اقامت، ذکر، تلاوت، علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہونے والے کس آیت اور کس حدیث کی رو سے عاجز قرار پائے ہیں؟ اور ان کو سلام کہنا کس آیت و حدیث کی رو سے ممنوع قرار دیا گیا ہے؟ وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے؟ جناب مفتی صاحب نے ان عاجزین کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے ان کو سلام کیا تو ان پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، یعنی ان کی طرف سے سلام کا جواب دینا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے (جیسا کہ یہ بات ابن عابدین شامی نے ردالمحتار [۱/۵۵۶، ۵۵۷، ۴۵۷] اور [۵/۲۹۳] میں لکھی ہے اور فتاویٰ عالمگیری کے صفحہ (۳۲۵) میں بھی ہے)۔

اب یہ شرعاً عاجز کس طرح قرار پائے؟ اس تضاد بیانی اور پیچیدگی کا کیا حل ہے؟ باقی مسائل کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ وضاحت یاد رکھیں کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک شطرنج کھیلنے والوں کو سلام کہنا درست ہے اور پیشاب کرنے والوں کو سلام کہنا صرف مناسب نہیں ہے اور وہ جواب دل میں دیں گے۔ آخر میں میں اپنے حنفی بھائیوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس تضاد بیانی اور سنت مخالف طرز عمل کو اللہ چھوڑے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قبر میں امتیوں کے آراء و مذاہب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سوال رب کے بارے میں ہوگا، دین کے بارے میں ہوگا اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں۔

میرے بھائیو! ان تمام تضاد بیانیوں اور پیچیدگیوں کا بہترین اور واحد حل قرآن و سنت کی طرف رجوع ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع سے اللہ کے فضل سے تمام پیچیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے آباء اور آراء الرجال کی جکڑ بندیوں کو توڑ کر قرآن و سنت کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائیے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَزِيدُكَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

إِلَيْكَ وَالْزَيْلُ لِلَّهِ الَّذِي بِنُصْرَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
 المكتبة البرکات اسلام آباد

۹۹۔۔۔ جے مائل ناؤن۔ لاہور اکتوبر ۲۰۰۱ء ایم ۱۶۲۲/۷/۲۱

سلام کے احکام و فضائل

أَحْكَامُ السَّلَامِ فِي الْإِسْلَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برادران اسلام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اتابعہ! اس فقیر الی اللہ الغنی نے جناب محترم عبدالولی صاحب حقانی حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مایہ ناز تحقیقی تصنیف ”احکام السلام فی الاسلام“ المعروف ”سلام کے احکام و فضائل“ کے چند ابتدائی صفحات پڑھے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ کتاب کو بہت ہی خوب عمدہ پایا۔ اُمید واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ذریعہ و سبب بنائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اہل اسلام و مسلم کے مسلم پر حق سلام اور سلام کے جواب میں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیں اور افضل المسلمین میں شامل ہو جائیں۔ ولی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کو اس قسم کے کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

مکتبہ کرمیہ ولے بھی تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے محض دین کی نشر و اشاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر ”سلام کے احکام و فضائل“ کی کتابت و طباعت میں حُسن و زیبائش پیدا کرنے کی مقدور بھر سہی و محنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ العلیین۔

عبدالمستان نورپوری

سرفراز کاٹونی۔ گوجرانوالہ

۱۳۲۶/۲/۹ھ



المکتبۃ الکبریٰ
ترویج دین و کلمات اللہ

E-mail: alkarimiaa@hotmail.com

محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ